


تہذیب

کے فضائل و دلائل



ابوالحیاء مونا محمد سجاد احمد بیکلانی

نوریہ رضویہ پی ای کیشنز

تراجم

کے فضائل و دلائل

مصنف

ابوالخیر محمد بن اسماعیل بن علی بن ابی حمزہ

خطیب جامع مسجد شیربانی، کوٹ رادھا کشن، ضلع قصور



مکتبہ برکاتیہ
ویپاپور روڈ الہ آباد
ٹھینگ مور ضلع قصور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

شب برات کے فضائل و دلائل	نام کتاب
مولانا ابوالخیر محمد احمد برکاتی	نام مصنف
جون 2012ء	طباعت
1100	تعداد
ڈاکٹر محمود احمد قادری	پروف ریڈنگ
قاری محمد عبدالحق نقشبندی مدرسہ حق القرآن	کمپوزنگ
فاروق احمد چشتی، اظہار احمد اشرف	معاونت
نوریہ رضویہ پبلی کیشنز	ناشر
اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور	مطبع
1N0057	کمپیوٹر کوڈ
200 روپے / 14c	قیمت

ملنے کا پتہ:

نوریہ رضویہ پبلی کیشنز

11 - بیج بخش روڈ، لاہور

فون 37313885-37070663

Email: nooriarizvia@hotmail.com

مکتبہ نوریہ رضویہ بغدادی جامع مسجد گلبرگ اے فیصل آباد

فون 041-2626048

مکتبہ برکاتیہ ریپالپور روڈ الہ آباد (ٹھیک موز) ضلع قصور

0300-4748132

حسب فرمان

زبدة العلماء والفضلاء

شیخ القرآن پیر طریقت

رہبر شریعت

حضرت علامہ مولانا

محمد علی برکاتی صاحب

زیب سجادہ

آستانہ عالیہ برکاتیہ

اللہ آباد ٹھینگ موڑ

ضلع قصور

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	انتساب	13
	تقریظ مبارک شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد خاں نوری ابدالوی صاحب	14
	تقریظ مبارک مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انوار حنفی صاحب	17
	شب برات کے دلائل و مسائل	20
1	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت البقیع میں شب برات منانا	24
2	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت البقیع میں شب برات منانا تفصیلی روایت	27
3	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں شب برات منانا	31
4	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں شب برات منانا دوسری روایت	32
5	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں شب برات منانا تیسری روایت	36
6	فضائل شب برات کی محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان	39
7	شب برات کی فضیلت پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور روایت	41
8	شب برات کی فضیلت پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک مزید روایت	42
9	اللہ تعالیٰ کی شب برات میں خانہ کعبہ پر خصوصی نظر کرم	43
10	خانہ کعبہ بھی قبلہ شب برات والے دن بنا	43
11	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ تہائی امت، نصف، تمام امت کی مغفرت	45
12	ایام بیض اور شب برات	47
13	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شب برات کی شان بیان فرمانا	48

49	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک مزید روایت	14
49	حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب برات کا تمام مہینہ روزے رکھنا	15
51	حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت شب برات کا قیام، دن کا روزہ	16
52	حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کی شب برات کی خصوصی دعا	17
54	حضرت داؤد علیہ السلام کی شب برات اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان	18
56	حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا شب برات منانا	19
58	حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت وائلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہم اور شب برات	20
59	گناہ گاروں کی زبان اور اللہ تعالیٰ کا نام اور شب برات	21
60	شب برات کی اہمیت پر حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی روایت	22
61	شب برات کی اہمیت پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک روایت	23
63	(شب برات سمیت) پانچ راتوں کا زندہ کرنا اور جنت کا وجوب	24
63	حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت	25
64	حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی ایک اور مرفوع روایت	26
65	پانچ مقدس راتیں (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت)	27
66	شب برات کی اہمیت پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع روایت	28
67	شب برات کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت	29
68	شب برات کی اہمیت پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت	30
69	شب برات کی اہمیت پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور مرفوع روایت	31
69	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک مزید روایت	32
70	شب برات کی اہمیت پر حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت	33

72	حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا ایک انداز	34
72	حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت	35
73	حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت	36
74	حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور مرفوع روایت	37
75	حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت	38
76	حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت	39
81	عیدین اور شب برات کی شب بیداری	40
81	حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت	41
82	مردوں اور حاجیوں کے نام	42
83	حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کی روایت	43
84	شب برات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے	44
84	صحابہ کرام کی کفار کے لئے بددعا بھی شب برات میں	45
85	شب برات کے چار نام	46
85	شب برات کے نام اور شب برات کی شناخت	47
86	حضرت وضین بن عطاء رضی اللہ عنہ سے روایت	48
87	شب قدر کے بعد افضل ترین رات شب برات	49
88	انسان کی قسمت کے فیصلے اور اس کی بے خبری و بے حسی	50
89	انسان کی زندگی کا سفر یا آخرت کا سفر؟	51
89	حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ کی روایت	52
90	حضرت عطاء خراسانی رضی اللہ عنہ کی روایت	53

91	حضرت حکیم بن کیسان رضی اللہ عنہ کی روایت	54
92	حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت	55
92	حضرت مکحول رضی اللہ عنہ کی روایت	56
93	شب برات میں حضرت جبریل علیہ السلام کی جنت میں آمد	57
95	شب برات میں جنت کی تزئین و آرائش	58
96	شب برات اور آب زمزم کی مٹھاس	59
97	شب برات اور آب زمزم کی مٹھاس کی مزید روایت	60
98	آب زمزم میں فراوانی شیخ اسماعیل حقی کی روایت	61
99	حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت	62
99	حضرت عتبہ بن حکیم رضی اللہ عنہ کی روایت	63
100	شب برات کی اہمیت پر ابن اخص رضی اللہ عنہ سے روایت	64
101	شب برات کی اہمیت پر راشد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت	65
101	تمام امور کی فرشتوں کو منتقلی اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت	66
102	شب برات اور زندگی کی تفسیح	67
102	راتیں بھی تو ایسی ہیں دن بھی تو ایسے ہیں	68
103	حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کی روایت	69
104	شب برات اور تقدیر کے فیصلے	70
104	فرشتوں کی آسمانوں پر دو عیدیں: شب برات اور شب قدر	71
105	یہ تمام راتیں افضل ہیں مگر شب میلاد کے بعد	72
106	شہداء کی ارواح کی شب برات میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری	73

107	حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور شب برات	74
108	شب برات میں حضرت خضر علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی ملاقات	75
110	شب برات میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا واقعہ	76
111	شب برات کی عبادت اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا اپنے گورنر کو حکم	77
112	محدثین کا حدیث کی کتب روایت کرنے کے لئے شب برات کا انتخاب	78
112	حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کی روایت	79
113	شب برات کا ایک خاص بیان	80
114	شب برات کا ایک خاص واقعہ	81
120	شب برات اور حضرت مالک بن دینار کی توبہ	82
124	حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شب برات کی حکمت بیان کرنا	83
126	اے غافل غفلت چھوڑ دے	84
129	اولیاء کو شب برات میں اپنی موت کا فیصلہ اور اپنی جائے تدفین کا علم ہو جانا	85
131	شب برات میں اللہ والوں کی نصیحت	86
132	شب برات میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا	87
133	بنو فاطمہ کے دور میں شب برات میں مساجد میں چراغاں کرنے میں مقابلہ کرنا	88
133	مصر میں حکومتی سطح پر شب برات کا اہتمام	89
134	اندلس (سپین) اور شب برات	90
135	شب برات پر حضرت سیدنا محمد علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت	91
135	مشہور مفکر ابن کثیر کی اولاد اور شب برات	92
138	شب برات اور محفل مشاعرہ	93

137	خواب میں شب برات دیکھنی	94
137	شب برات: حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کی ولادت	95
138	شب برات: حضرت سیدنا لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال	96
139	جمعة الازھر میں ذور قدیم سے ہی شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شب برات اور دیگر مشہور راتوں میں خصوصی اجتماعات	97
محدثین کے تبصرے		
140	شب برات پر اعتراض کا امام بخاریؒ کے پر داد استاد شریک بن عبد اللہ کا جواب	1
141	حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت	2
141	حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ	3
142	حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور فتویٰ	4
143	امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ	5
143	حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کا اعلان	6
144	حضرت فضیل بن فضالہ رضی اللہ عنہ کا تبصرہ	7
145	شامی ائمہ کا شب برات کے بارے واضح موقف	8
146	حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح روایت	9
147	حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا شب برات پر تبصرہ	10
148	حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا شب برات پر مزید تبصرہ	11
148	حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ	12
149	حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ	13
149	شب برات کے متعلق امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ	14

150	شب برات کے متعلق امام ضیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ	15
151	مشہور نقاد اور محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا شب برات کے موقع پر خطاب	16
151	شب برات کے متعلق امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان	17
152	شب برات کے متعلق امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ	18
152	شب برات کے متعلق مفسر قرآن علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان	19
153	مشہور مفسر زنجیری کا شب برات پر تبصرہ	20
154	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نفیس ترین تبصرہ	21
مشاہیر و ناقدین کے تبصرے		
158	شب برات کے متعلق غیر مقلدین کے ممدوح ابن تیمیہ کا بیان	1
158	شب برات کے متعلق غیر مقلدین کے ممدوح ابن تیمیہ کا باقاعدہ فتویٰ	2
159	غیر مقلدین کے ممدوح ابن تیمیہ کا تفصیلی بیان	3
161	غیر مقلدین کے ممدوح ابن تیمیہ کا چوتھا بیان	4
161	غیر مقلدین کے ممدوح علامہ ابن قیم جوزی کا تبصرہ	5
162	غیر مقلدین کے پیشوا ناصر الدین البانی کا شب برات کی روایت کو صحیح قرار دینا	6
162	ناصر الدین البانی کا شب برات کی دوسری روایت کو صحیح قرار دینا	7
163	ناصر الدین البانی کا شب برات کی تیسری روایت کو صحیح قرار دینا	8
164	ناصر الدین البانی کا شب برات کی چوتھی روایت کو صحیح قرار دینا	9
164	ناصر الدین البانی کا شب برات کی پانچویں روایت کو صحیح قرار دینا	10
165	غیر مقلدین کے ثناء اللہ امرتسری کا تبصرہ	11
165	غیر مقلدین کے عبدالرحمن مبارک پوری کا تبصرہ	12

166	غیر مقلدین کے عبدالرحمن مبارک پوری کا فتویٰ	13
167	غیر مقلدین کے عبداللہ روپڑی کا تبصرہ	14
167	اہل تشیع کے ہاں شب برات کی اہمیت	15
168	اہل تشیع کی ایک اور روایت	16
170	وہ محدثین کرام جن کی ولادت شب برات میں ہوئی	
173	وہ محدثین کرام جن کی وفات شب برات میں ہوئی	
178	شب برات کے موضوع اور فضائل پر محدثین کی لکھی گئیں مشہور کتب کے نام	
شب برات کے نوافل کے مختصر دلائل		
184	شب برات میں عبادت الہی سے قبل غسل کرنا سنت ہے	1
185	شب برات میں غسل کرنے کا فقہ سے ثبوت	2
185	شب برات میں 100 رکعت نفل: قدیم اہل مکہ کا عمل	3
187	شب برات میں 100 نفل کا ثبوت تیس ثقہ راویوں سے	4
188	شب برات میں 100 نفل کا ثبوت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً	5
189	100 نفل کی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے توثیق	6
190	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 100 نوافل کی فضیلت بیان فرمانا	7
192	100 نفل حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا تیس صحابہ کرام سے ثبوت	8
193	شب برات میں 100 نوافل کا اجر 100 فرشتے	9
194	شب برات میں 100 نوافل کا حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے ثبوت	10
195	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 14 رکعت نفل پڑھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دیکھنا	11
196	ایک سال کی پندرہ راتوں کی اہمیت	12

197	شب برات میں بارہ نوافل کا اجر	13
197	شب برات میں بارہ نوافل کا اجر	14
198	شب برات میں دو نوافل کی فضیلت	15
199	شب برات میں بعد از نماز مغرب سورہ لیس کا اجر	16
200	شب برات میں روزہ رکھنے کا حکم	17
202	شب برات والے دن پرندوں اور جانوروں کا روزہ	18
203	شب برات کے موقع پر باقاعدہ عمل (دن اور رات)	19
210	ماخذ و مراجع	

يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ

مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُورَ الْقَمَرُ

لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر



میں اپنی اس کاوش کو اللہ رب ذوالجلال جو کہ اپنے بندے پر ستر ماؤں کے اکلوتے بیٹے کے ساتھ پیار کرنے سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس بارگاہِ لم یزل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اسی رب کائنات کی کرم فرمائی سے امام کائنات، تتمہ کائنات، محسن کائنات، اصل کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں آپ کا ادنیٰ ترین امتی ہونے کے ناطے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نعلین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے طفیل اپنے دادا جان قبلہ، عاشقِ رسول، قائمِ اللیل، صائمِ النہار، ذاکر اللہ، واصف الرسول حضرت میاں محمد رمضان القادری نور اللہ مرقدہ اور ان کے والد محترم خلیفہ مجاز حضرت سلطان عبد الحکیم، عامل روحانی، صورت نورانی حضرت میاں نور محمد القادری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد بزرگ وار کامل الایمان، واقف اسرار روحانی، قاسم فیوضاتِ غوثِ جیلانی، حضرت میاں قاسم علی القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے والد عالی مرتبت شیخ کامل زبدۃ الحکماء حضرت میاں عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام آباء و اجداد کرام کی خدمت میں بصد عز و شرف پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال ان تمام پاکیزہ ہستیوں کو اعلیٰ علیین میں بلند درجات عطا فرمائے اور ان کی اولاد کی طرف سے ان کی ارواح مبارکہ کو لاتعداد خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یس۔

مالک کائنات اس کتاب کو عامۃ المسلمین کے لئے نافع بنائے اور خصوصاً اس عاجز

کے لئے اللہ رب ذوالجلال دنیا و آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنائے

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

تقریظ مبارک

استاذ العلماء والفضلاء مظہر کمالات حضور ضیاء الامت

مرتب العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ

محمد خاں نوری ابدالوی

شیخ الحدیث ووائس پرنسپل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف ضلع سرگودھا

الْحَمْدُ لَكَ يَا اللَّهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ

اقوام از منہ گزشتہ جب عصیاں شعاری کا شکار ہو کر اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کر لیتیں تو غضب الہی کا شکار ہو جاتیں۔ قرآنی شہادت کے مطابق کسی کو پانی میں غرق کیا گیا تو کسی کو زندہ زمین میں خزانوں سمیت دھنسا دیا گیا، کسی قوم کی شکلیں مسخ ہوئیں تو کسی قوم کو ایک کڑک سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ جب کسی قوم کی گناہ گاریاں حد سے زیادہ بڑھ جاتیں تو عذاب آجاتا تھا لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے جب گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو رحمت الہی کا سیلاب آجاتا ہے۔ کبھی شب برات کی صورت میں اور کبھی لیلة القدر کی صورت میں بلکہ کسی بھی لمحے گناہ گار احساس ندامت کے ساتھ اس تو اب و رحیم کی طرف رجوع کر لے تو اللہ کریم کی رحمتیں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہیں اور اگر یہ احساس قلب و روح کی گہرائیوں سے بیدار ہو تو اللہ کریم اس کی سیئات

کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری رحمتیں اور کرم گستریاں غم امت میں رخسارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہنے والے ان آنسوؤں کی قدر دانی کے طور پر ہیں جس کے سینکڑوں شواہد حدیث و سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں لیلۃ البراءۃ بھی ان اسباب بخشش میں سے ایک ہے جو امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی مہربانی کے طور پر اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں۔

ان خیر و بھلائی کے مواقع پر شیطان لعین اور اس کی ذریت معنوی کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اعمالِ صالحہ سے محروم رہیں، داغہائے عصیاں ان کے دامن پر موجود رہیں تاکہ وہ جہنم کی خوراک بن جائیں اس مقصد کے لئے وہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں ایسے میں علمائے ربانیین کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے علم و عرفان کے نور سے چراغاں کریں تاکہ راہِ نور دانِ ہدایت و معرفت کامیابی کے ساتھ ساحلِ مراد تک پہنچ جائیں۔

علامہ محمد احمد برکاتی صاحب مدظلہ العالی جو اس سال محقق ہیں جنہوں نے شب برات کے بارے میں تلپسی شہات پیدا کرنے والوں کی پیدا کردہ تشکیک کو اپنے علمی دلائل سے تحقیق میں بدل دیا ہے گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی گناگار مخلوق کو اس کے درِ رحمت کے قریب کرنے کی ایک شعوری کوشش کی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد جب کسی انسان کو شرح صدر نصیب ہوگا اور وہ پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ شب برات میں عبادت و ریاضت کرے گا تو اس کی

وجہ سے اللہ کریم علامہ موصوف کو بھی اجر عظیم سے نوازے گا۔ مصروفیات کی کثرت کی وجہ سے میں نے اس کتاب کو جستہ جستہ پڑھا ہے فاضل موصوف نے احادیث کی تخریج کر کے مخلوق خدا کو ایقان کی منزل تک پہنچایا ہے اللہ کریم ان کی اس خلوص بھری کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کے راہوار قلم کو اور سرعت و قوت سے نوازے آمین بجاہ طہ ویس۔

خادم العلم والعلماء

محمد خان نوری ابدالی

شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف

تقریظ مبارک

استاذ المناظرین مناظر اسلام

حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انوار حنفی صاحب

شیخ الحدیث جامعہ حنفیہ رضویہ کوٹ رادھا کشن

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ

اللہ تعالیٰ نے ابدی دین اسلام کی حفاظت کو بوسیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس دین متین کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پر لیا اور اس کے لئے ہر دور میں فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے رجال پیدا کئے جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لئے اپنے تن من اور دھن کی بازی لگادی اور اپنی ساری عمر اسی تک و دو میں گزار دی اور اسلام کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دی۔

ان فتنوں میں سے ایک فتنہ مروجہ حسنات و خیرات کو سراسر غیر اسلامی، بدعت و ضلالت اور خلاف دین و ملت ثابت کرنے کے لئے سردھڑکی بازی لگانا ہے تحریر و تقریر میں یہ بات باور کرانے کی کوشش کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ان اعمالِ حسنہ کا پورے ذخیرہ احادیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔

ایسے فتنوں میں سے ایک فتنہ شبِ برات کا منانا، رات کو عبادت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، ایصالِ ثواب کرنا جیسے اعمالِ حسنہ کو بدعت و ضلالت کہنے کا ہے۔ ان فتنہ پروروں نے احادیث صحیحہ کا انکار کر کے اپنی گمراہی و ضلالت پر خود مہر تصدیق ثبت کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ کی سرکوبی کرنے کے لئے معدنِ حسنات و خیرات، منبعِ فیوض و

برکات شیخ القرآن والتفسیر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد علی برکاتی مدظلہ العالی کے صاحبزادہ والا شان محقق دوراں، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد احمد برکاتی مدظلہ العالی اطال اللہ عمرہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے شب برات کی فضیلت، اس رات کا منانا اور اس سلسلہ میں مستند واقعات کو دلائل قاہرہ سے ثابت فرمایا۔ اس شب کے اعمال کو بھی دلائل کے ساتھ واضح فرما کر مخالفین پر حجت تمام فرمادی ہے بلکہ مخالفین اہلسنت کے علماء کے تائیدی بیانات کو بھی اپنی کتاب کی زینت بنا دیا ہے۔

اس کتاب کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ محقق دوراں نے اس کتاب میں جہاں پر دلائل قائم فرمائے ہیں وہاں پر ساتھ ہی ساتھ تخریج کا کام بھی کر دیا ہے۔ تخریج کا کام اعمال شاقہ میں سے ہے جس کے بہت سے فوائد ہیں چند فوائد تخریج حاضر خدمت ہیں:

☆ 1 ایک حدیث کے مختلف طرق کا ملنا جس سے حدیث کے قوی ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔

☆ 2 بعض اوقات کسی ایک حدیث کی سند میں ضعیف راوی ہوتا ہے تو دوسری اسناد میں ثقہ راوی مل جانے سے وہ حدیث کی سند قوی ہو جاتی ہے۔

☆ 3 بعض اوقات مدلس راویان کی مععن روایات کے اتصال و تحدیث کے طرق تخریج کے ذریعے سے بھی مل جاتے ہیں۔

☆ 4 بعض اوقات تخریج سے کسی حدیث کے شواہد مل جاتے ہیں جس سے وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔

☆ 5 تخریج سے ضعیف اور مدلس راوی کی متابعت بھی مل جاتی ہے جس سے وہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔

☆ 6 تخریج کا یہ فائدہ بھی ہے کہ بعض احادیث میں بعض راوی اضافی کلمات

کا ذکر دیتے ہیں جن پر ادلہ شرعیہ کی بنیاد ہوتی ہے۔

☆7 بعض دفعہ ایک روایت میں متن حدیث کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو تخریج

سے اس مسئلہ کو بھی حل کر لیا جاتا ہے۔

☆8 تخریج کے کام سے سند میں واقع راوی کے نام کی تصحیح کا فریضہ بھی باحسن

و خوبی سرانجام پاتا ہے۔

☆9 بعض احادیث مبارکہ میں کچھ اضافی کلمات یا الفاظ بھی آجاتے ہیں وہ

کلمات یا الفاظ راوی کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں کسی صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نہیں ہوتے تو تخریج سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔

☆10 تخریج کے کام سے مفید اضافے احادیث مبارکہ میں ثقہ راویوں سے مل

جاتے ہیں۔

ان کے علاوہ تخریج کے مزید بہت سے فوائد و قواعد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا

ہے کہ حضرت علامہ مولانا محمد احمد برکاتی صاحب کی اس کتاب کو قبولیت عامہ عطا فرما کر

مصنف کے لئے ذخیرہ آخرت فرمائے آمین ثم آمین

خادم العلماء

پروفیسر مفتی محمد انوار حنفی

دارالعلوم جامعہ حنفیہ رضویہ نزد جامع مسجد نہروالی

کوٹ رادھا کشن

شب برات کے دلائل و مسائل

اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بنایا تو اس شان سے کہ نیابت کا تاج سر پر سجا کر مسجود ملائک بنا کر تخلیق فرمایا۔ پھر ان کی اولاد کو دنیا میں رہنے کے لئے بھیجا تو ان کو مجبور محض بنانے کی بجائے با اختیار بنا کر **وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ** کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمادی اب جو انسان اعمال صالحہ کے رسیا ہوئے۔ ان کو تو نیکی کرنے کا ایسا جذبہ نصیب ہوا کہ وہ نیکی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے اور یوں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرتے کرتے محبوبان خدا کے درجہ پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نیکی کرنے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نفس اور شیطان کے دام تزویر میں آکر گناہگاروں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور یوں جہنم میں جانے کے لئے جہنمی راستے کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں۔ اب ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ان کے ہمالیہ سے بھی بڑے بڑے گناہوں کے ذخیروں کو پاش پاش کر کے راہ ہدایت پر گامزن کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کچھ قیمتی لمحات عطا فرماتا ہے کہ تم بھی ان لمحات کی قدر کر کے فاستبقوا الخیرات کا عملی مصداق بن کر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں کوشاں ہو جاؤ۔ یہی لمحات صلحاء کے لئے بھی مختصر وقت میں اعلیٰ ترین درجات کے ضامن بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی

یا برکت لمحات میں سے ایک شب ایسی بھی ہے جس کو نصف شعبان کی شب، پندرہ شعبان کی شب، شب برات یا لیلۃ البراءة کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس شب میں نیک و بد سبھی اللہ تعالیٰ کے حضور مساجد میں خانقاہوں میں قبرستانوں میں الغرض جہاں موقع ملتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو کر اس کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی و انکساری کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و کار کرتے ہیں، نفل نوافل میں رات گزارتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، علمائے کرام سے خوف خدا پر مبنی بیانات سنتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے حضور رورو کر اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی آخرت کی بہتری پر مبنی دعائیں التجائیں کرتے ہیں اپنے ملک کی بہتری کے لئے بھرپور طور پر دعائیں کرتے ہیں اور یوں وہ **يَبْتَئُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا** کی عملی تفسیر بنتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ کچھ لوگ جو نہ تو خود نیکی کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو نیکی کرتا ہوا برداشت کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ شب برات کے جہاں دیگر شرعی فیوض و برکات کا انکار کرتے ہیں وہیں نیکی کرنے والوں کو غلط غلط القابات دے کر عبادت الہی سے برگشتہ کرنے کی سعی نامشکور کرتے ہیں۔ اور یوں اس مقدس رات کو عبادت میں گزارنے کی بجائے انتشار و افتراق کی نظر کر دیتے ہیں اور یوں نہ تو خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو کرتا ہوا برداشت کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اس رات میں کوئی غیر مسلم تو مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر نہیں سکتا تو لازمی بات ہے کہ یہ رات مسلمانوں ہی کو اللہ تعالیٰ

نے عطا فرمائی ہے تو مسلمانوں پر اس رات کی عزت و احترام لازم ہے اور اس رات کی عزت و احترام یہی ہے کہ اس رات میں جی بھر کر اور دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اپنے اپنے اعمال کو اللہ رب ذوالجلال کی رحمت سے معمور کرنے کی سعی جمیلہ کی جائے۔

نوٹ: اس کتاب کے لکھنے کے منجملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کے ایک شب برات منکر ادارہ نے جو کنز العمال بیروت ایڈیشن کی کاپی شائع کی ہے اس کی جلد نمبر چودہ کے صفحہ نمبر اٹھتر سے کئی احادیث جان بوجھ کر ہضم کر لی ہیں اور یہ احادیث ماہِ رجب شریف اور شبِ برات وغیرہ کے فضائل کے متعلقہ تھیں۔ کتاب کی فہرست میں یہ عنوانات موجود ہیں لیکن احادیث کے ضمن میں ایک بھی حدیث جان بوجھ کر درج نہیں کی۔ قارئین کرام نوٹ فرمائیں کہ یہ کام سہوا نہیں ہوا بلکہ جان بوجھ کر ہوا ہے۔ کیونکہ پچھلا باب روٹین کے انداز میں ختم کر کے نیا باب شروع کر دیا گیا ہے تاکہ سرسری نظر میں کسی کو محسوس ہی نہ ہونے پائے۔ جب کہ اس سے پہلے انہیں منکرین کے ایک بزرگ نے حدیث کی مشہور کتاب مصنف عبدالرزاق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا مکمل باب ہضم کر کے ریکارڈ قائم کیا تھا اب انہوں نے اس ریکارڈ کو تجدیداً پھر اپنے نام کرنے کی کوشش کی ہے۔ علمائے اہلسنت اور عوام اہلسنت ان کے ہتھکنڈوں سے ہوشیار رہیں اور اس کے لئے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ

منکرین کے کسی بھی مکتبہ سے کسی بھی قدیم مصنف کی شائع شدہ کتاب خریدنے سے مکمل پرہیز فرمائیں اگر کوئی تخریب کاری نظر آئے تو علماء و عوام اہلسنت کو اس سے باخبر کرنا مت بھولیں یہ آپ کا مذہبی فریضہ بھی ہے اور دین کی خدمت بھی۔
کیوں کہ معاملہ

۔ کہیں کچھ ملانہ دیا ہو پاپی نے

کا مصداق نہ ہو جائے۔ بہر حال کچھ دوستوں کے اصرار پر فقیر نے اس ضمن میں کچھ احادیث طیبہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں عبادت الہی سے نالاں لوگوں کے دل میں عبادت الہی کا شوق پیدا ہو وہاں عبادت الہی کرنے والوں کے لئے باعث تسکین ہو سکے، اور وہ اپنی سچی لگن خصوصاً اس رات میں بغیر کسی شک و شبہ کے عبادت الہی کر سکیں اور اس رات کے فیوض و برکات سمیٹ سکیں۔
اللہ مالک کائنات ہر مومن کو اپنا فرمانبردار بناتے ہوئے دنیا و آخرت میں عزت سے مالا مال فرماتے ہوئے اپنے پسندیدہ مقام سے سرفراز فرمائے اور اس کتاب کی بدولت عمل کرنے والوں کی نیکیوں کی برکت سے راقم الحروف کو بھی اپنے محبوب محترم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ اور ان کے خدام میں بروز حشر جگہ نصیب فرمائے۔

آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ والہ وسلم

﴿1﴾

حضور ﷺ کا جنت البقیع میں شب برات منانا

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ لَيْلَةً فَاِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: أَكُنْتُ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولَهُ. قَالَتْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مَنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كَلْبٍ.

- جامع ترمذی کتاب الصوم باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان -

- سنن ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلاۃ والسنة فیہا باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان -

- مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238 -

- مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 108 -

- مسند اسحاق بن راہویہ، حدیث نمبر 850 (مکتبۃ الایمان مدینہ منورہ) -

- مسند عبد بن حمید صفحہ نمبر 437 -

- اخبار مکہ (فاکھی) باب ذکر اہل مکہ فی لیلۃ النصف من شعبان -

- الالبانی الکبری جلد 3 حدیث نمبر 176، دار الراية الرياض -

- کتاب النزول (دار قطنی) حدیث نمبر 73+74 -

- شرح السنہ (بغوی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 512 -

- شعب الایمان (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 -

- فضائل الاوقات (بیہقی) حدیث نمبر 28 -

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 -

- العلیل الممتاہیہ (ابن جوزئی) حدیث نمبر 915۔

- جامع الاصول جلد نمبر 9 کتاب الفہائل و المناقب فضل الازمنہ

- جامع الاحادیث (سیوطی) حدیث نمبر 2624

- کنز العمال (علی الممتقی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 160-35179

- تفسیر روح المعانی سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر خازن سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر درمنثور سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- تحفۃ الاحوذی (مبارکپوری) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 364۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے گھر میں شب بسر کی باری تھی۔ رات کا وقت ہوا میں سو رہی تھی۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا۔ میں گھبرا کر آپ کو تلاش کرنے کیلئے باہر گئی۔ تلاش کرتے کرتے جنت البقیع (مبارک قبرستان جو کہ آپ کے گھر کے پاس ہی تھا) پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں مصروف پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خیانت کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بات نہیں ہے لیکن میں نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنی کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پندرہ شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر (کما یلیق بشانہ) تشریف فرما ہوتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرمادیتا ہے۔

نوٹ: اللہ تعالیٰ کے اترنے کا یہ مطلب ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی صفت جلال جو کہ بدکاروں اور گناہگاروں سے انتقام کا تقاضا کرتی ہے اس سے اپنی صفت رحمت و مغفرت کی طرف خصوصیت سے متوجہ ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کو اس لئے اس انداز میں محمول کیا گیا ہے کہ اترنا چڑھنا اور حرکت و سکون چونکہ جسم مادی کی صفات ہیں اور عقلی و نقلی اور قطعی دلائل سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور مکان سے پاک ہے اس لئے اگر اس کا یہ معنی کیا جائے کہ وہ بلند جگہ سے پست جگہ کہ طرف منتقل ہوتا ہے تو یہ محال ہے۔ اس لئے اس حدیث کے وہی معنی ہوں گے جو اہل حق نے کئے ہیں یعنی رحمت کا اترنا اور اس کی مہربانی اور بخشش کا اپنے بندوں پر زیادہ ہونا اور ان کی دعاؤں اور توبہ کا منظور کر لینا۔ جیسا کہ کریم بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے پڑوس میں اترتے ہیں ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ اگرچہ اس بات کا تعلق تمام راتوں کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شب پچھلی رات میں اترتی ہے لیکن اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات سرشام ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ تمام سال عام طور پر رحمت کا نزول ہوتا ہے لیکن اس رات خاص طور پر رحمت باری تعالیٰ کا نزول ہو جاتا ہے جو کہ نہ صرف فجر تک جاری رہتا ہے بلکہ دن میں روزہ رکھنا بھی باعث برکت بن جاتا ہے۔ لہذا اس حدیث پاک کا یہی تقاضا بھی ہے اور اس کا مطلب بھی یہی واضح ہو رہا ہے۔

﴿2﴾

حضور ﷺ کا جنت البقیع میں شب برات منانا تفصیلی روایت

قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَ عِنْدَهُ
 ثَوْبِيهِ ثُمَّ لَمْ يَسْتَتِمَّ أَنْ قَامَ فَلَبِسَهُمَا فَأَخَذَتْ نِيَّ غَيْرَةَ شَدِيدَةً
 ظَنَنْتُ أَنْهُ يَأْتِي بَعْضَ صَوِيحِبَاتِي فَخَرَجْتُ أَتْبَعُهُ فَأَدْرَكْتُهُ
 بِالْبَقِيعِ الْغَرَقِدِ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ .
 فَقُلْتُ: يَا أَبِي وَأُمِّي أَنْتَ فِي حَاجَةِ رَبِّكَ. وَأَنَا فِي حَاجَةِ الدُّنْيَا.
 فَأَنْصَرَفْتُ فَدَخَلْتُ حُجْرَتِي وَلِي نَفْسٌ عَالٍ. وَلِحِقْنِي رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا هَذَا النَّفْسُ يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ يَا أَبِي وَأُمِّي
 أَتَيْتَنِي فَوَضَعْتَ عِنْدَكَ ثَوْبِيكَ ثُمَّ لَمْ تَسْتَتِمَّ أَنْ قُمْتُ فَلَبِسْتَهُمَا
 فَأَخَذْتَنِي غَيْرَةَ شَدِيدَةً ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَأْتِي بَعْضَ صَوِيحِبَاتِي
 حَتَّى رَأَيْتُكَ بِالْبَقِيعِ تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ. قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ كُنْتُ
 تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ، بَلْ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ، فَقَالَ: هَذِهِ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلِلَّهِ فِيهَا
 عُتْقَاءٌ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى
 مُشْرِكٍ وَلَا إِلَى مُشَاجِنٍ وَلَا قَاطِعِ رَحْمٍ وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ وَلَا إِلَى
 عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ وَلَا إِلَى مُدْمِنٍ خَمْرٍ. قَالَ ثُمَّ وَضَعَ ثَوْبِيهِ فَقَالَ لِي:

يَا عَائِشَةُ أَتَأَذِّنِينَ لِي فِي قِيَامِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا أَبِي
وَأُمِّي فَقَامَ فَسَجَدَ طَوِيلًا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قُبِضَ فَقُمْتُ التَّمِسُّهُ
وَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ فَتَحَرَّكَ فَفَرِحْتُ وَسَمِعْتُهُ
يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ
سُخْطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهَكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ
كَمَا اثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرْتَهُنَّ لَهُ فَقَالَ : تَعَلَّمِيهِنَّ
وَعَلَّمِيهِنَّ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَنِيهِنَّ وَأَمَرَنِي أَنْ
أَرِدَهُنَّ فِي السُّجُودِ.

- شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383۔

- ابن عساکر جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 195۔ مختصراً

- الترغیب والترہیب (منذری) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 286۔

- جامع الاحادیث حدیث نمبر 43338۔ مختصراً

- الزوجر (ابن حجر مکی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59۔

- تفسیر درمنثور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 403۔

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم میرے پاس (رات کو) تشریف لائے ابھی آپ نے (تبدیل کرنے کے
لئے) مکمل کپڑے بھی نہیں اتارے تھے کہ کھڑے ہوئے اور دوبارہ زیب تن
فرمائے (اور تشریف لے گئے)۔ آپ کے جانے کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا

یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو ڈھونڈنے کے لئے باہر آئی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں، عورتوں اور شہداء کے لئے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میرے باپ اور ماں آپ پر قربان ہوں، آپ اپنے رب کے کام میں مصروف ہیں اور میں دنیا کی حاجت میں تھی۔ چنانچہ میں گھر واپس لوٹی تو میری سانس بہت زیادہ پھولی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا: اے عائشہ یہ سانس کیسے پھولی ہوئی ہے؟۔ میں نے عرض کیا کہ میرے باپ اور ماں آپ پر قربان ہوں آپ تشریف لائے اور لباس اتارا (تبدیل کرنے کے لئے) ابھی مکمل بھی نہیں اتارا تھا کہ آپ دوبارہ تیار ہو کر تشریف لے گئے تو مجھے شدید غیرت آئی کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کو جنت البقیع میں دیکھا وہاں آپ جو عمل فرما رہے تھے وہی فرما رہے تھے (وہ آپ ہی کی شان کے لائق تھا)۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم اس بات سے گھبرا گئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خیانت کریں گے؟۔ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ رات نصف شعبان کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی طرف، تعلقات توڑنے والے، تکبر سے چادر لٹکانے

والے، والدین کے نافرمان، اور شراب بنانے والے کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھتا۔ پھر آپ نے کپڑے رکھے اور فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم مجھے اس رات عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں میرے باپ اور ماں آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے کچھ قیام فرمایا اور پھر آپ نے طویل سجدہ فرمایا۔ وہ سجدہ اتنا طویل ہوا کہ میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کی روح مبارک (خدا نخواستہ) پرواز کر گئی ہے۔ میں آپ کو چھونے کے لئے اٹھی اور آپ کے پاؤں کے تلوے کو ہاتھ لگایا تو آپ نے حرکت فرمائی تو مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے آپ کو سجدہ میں یہ کہتے ہوئے سنا: اے اللہ میں تیری سزا سے تیرے عفو کی پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے چہرے کے جلال کی پناہ مانگتا ہوں، میں تیری ویسی حمد و ثناء بیان نہ کر سکا جیسی تو خود اپنی لئے بیان فرما سکتا ہے (اسی طرح دعائیں کرتے کرتے آپ نے ساری رات گزار دی)۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے انہیں یاد کرنے کی غرض سے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ تم بھی سیکھ لو اور آگے بھی سکھا دینا۔ کیوں کہ مجھے یہ جبریل علیہ السلام نے بتایا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں انہیں سجدوں میں بار بار پڑھتا رہوں۔

﴿3﴾

حضور ﷺ کا گھر میں شبِ برات منانا

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قَبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكَتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ فَرَجَعْتُ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَفَرَّغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرًا أَظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ خَاسَ بِكَ؟ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ قَبِضْتَ لِطَوْلِ سُجُودِكَ فَقَالَ أَتَدْرِينَ أَيُّ لَيْلَةٍ هَذِهِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحَقْدِ كَمَا هُمْ.

- شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382۔

- تفسیر درمنثور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 403۔

- الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 (منذری نے کہا کہ بیہقی نے اسے مرسل جید کہا ہے)

- الزواجر (ابن حجر مکی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60۔ مختصراً

- تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات نماز ادا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور اتنا طویل سجدہ

فرمایا کہ یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ (خدا نخواستہ) آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ پس جب میں نے یہ گمان کیا تو کھڑی ہوئی یہاں تک کہ میں نے آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی تو آپ نے حرکت فرمائی پھر آپ نے سجدہ سے اپنا سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا اے عائشہ یا کہا اے حمیراء کیا تو نے گمان کیا کہ تمہارے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ میں نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم یا نبی اللہ ایسا نہیں لیکن میں نے آپ کے طویل سجدہ سے گمان کیا کہ (خدا نخواستہ) آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو جانتی ہے کہ یہ رات کیا ہے؟۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی شب ہے اس میں بخشش مانگنے والوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ رحم مانگنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے۔ اور بغض رکھنے والوں کو مہلت دی جاتی ہے۔

﴿4﴾

حضور ﷺ کا گھر میں شب برات منانا دوسری روایت

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أُنْسِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مِرْطَبِي ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا كَانَ مِرْطَبَانِي خَرًّا وَلَا قَرًّا وَلَا كُرْسْفِي وَلَا كَتَانِي. قُلْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ؟ قَالَتْ: كَانَ سُدَاهُ الشُّعْرَ وَكَانَتْ لُحْمَتُهُ

مِنْ وَبَرِ الْإِبِلِ. قَالَتْ فَخَشِيْتُ أَنْ يَكُونَ أَتَى بَعْضَ نِسَائِهِ فَقُمْتُ
 التَّمِسَةَ فِي الْبَيْتِ فَيَقَعُ قَدَمِي عَلَى قَدَمِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَحَفِظْتُ
 مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَخِيَالِي وَأَمَّنْ لَكَ فُؤَادِي
 وَأَبْوَاءُ لَكَ بِالنِّعَمِ وَاعْتَرِفُ بِالذُّنُوبِ الْعَظِيمَةِ ظَلَمْتُ نَفْسِي
 فَاغْفِرْ لِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ
 وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ وَأَعُوذُ
 بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ قَالَتْ:
 فَمَارَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا حَتَّى أَصْبَحَ
 فَأَصْبَحَ وَقَدْ أَصْعَدْتُ قَدَمَاهُ فَإِنِّي أَعْمَرُهُمَا وَقُلْتُ يَا رَبِّ أُمَّيْ أ
 تَعَبْتُ نَفْسَكَ. أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَكَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا
 تَأَخَّرَ. أَلَيْسَ قَدْ فَعَلَ اللَّهُ بِكَ أَلَيْسَ أَلَيْسَ. فَقَالَ: بَلَى يَا عَائِشَةُ
 أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. هَلْ تَدْرِينَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَتْ:
 مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: فِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِي
 آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي
 هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تُنَزَّلُ أَرْزَاقُهُمْ. فَقَالَتْ: يَا
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ. فَقَالَ: مَا
 مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ قُلْتُ: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى هَامَتِهِ فَقَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ

مِنْهُ بِرَحْمَةٍ يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

- فضائل الاوقات (بیہقی) حدیث نمبر 26-

- النزول (دارقطنی) حدیث نمبر 75-

- اخلاق النبی ﷺ (ابوالشیخ) حدیث نمبر 461۔ (مختصر)

- میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ نمبر 262-

- جامع الاحادیث حدیث نمبر 43406+42942-

- ابن شاہین فی الترغیب کذاذ کرالیوٹی جامع الاحادیث-

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345-

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے بستر کی چادر ریشمی تھی نہ سوتی تھی۔ ہم نے کہا کہ سبحان اللہ پھر وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا تانا بکری کے بالوں اور بانا اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ کو تار یکی میں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی کی میرا پیر آپ کے پیر سے ٹکرایا (اس وقت آپ سجدہ ریز تھے)۔ اس وقت آپ جو دعا پڑھ رہے تھے میں نے اسے یاد رکھا وہ یہ دعا تھی: میرا جسم اور ذہن تجھے سجدہ کر رہا ہے اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی بڑی بڑی لغزشوں کا اقرار کرتا ہوں، میں نے اپنی جان پر تجاوز کیا۔

پس تو مجھے بخش دے۔ بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخشے گا۔ میں تیری سزا سے تیری معافی کی طرف آتا ہوں، اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں، اور تیری ناراضگی سے تیری رضاء کی طرف آتا ہوں، اور تجھ سے تیری ہی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثناء نہیں کر سکا جیسی تو خود اپنی حمد و ثناء کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ کے پاؤں مبارک سو ج گئے۔ میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی چنانچہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا یا ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے طفیل آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما چکا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں اے عائشہ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اس سال اولاد آدم سے پیدا ہونے والے ہر فرد کا نام لکھا لیا جاتا ہے۔ اور اس سال اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل

نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی نہیں؟۔
آپ نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر تین مرتبہ فرمایا: میں بھی نہیں میں بھی نہیں۔ سوائے
اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔

﴿5﴾

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں شب برات منانا تیسری روایت
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَيْلَتِي وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} عِنْدِي. فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَدْتُهُ
فَأَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ النِّسَاءَ مِنَ الْغَيْرَةِ. فَتَلَفَعْتُ بِمِرْطَبِي أَمَا وَاللَّهِ مَا
كَانَ مِنْ خَزٍّ وَلَا قَزٍّ وَلَا حَرِيرٍ وَلَا دِيْبَاجٍ وَلَا قَطْنٍ وَلَا كَتَّانٍ. قِيلَ
لَهَا مِمَّ كَانَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ كَانَ سَدَاهُ شَعْرٌ وَلُحْمَتُهُ مِنْ
أَوْبَارِ الْإِبِلِ. قَالَتْ: فَطَلَبْتُ فِي حُجْرِ نِسَائِهِ فَأَنْصَرَفْتُ إِلَى
حُجْرَتِي فَإِذَا أَنَا بِهِ كَالثُّوبِ السَّاقِطِ وَهُوَ يَقُولُ: سَجْدَاكَ
خِيَالِي وَسَوَادِي وَأَمَّنْ بِكَ فَوَادِي، وَهَذِهِ يَدِي وَمَا جَنَيْتُ بِهَا
عَلَى نَفْسِي. يَا عَظِيمًا تُرْجِي لِكُلِّ عَظِيمٍ، يَا عَظِيمًا إِغْفِرِ الذَّنْبَ
الْعَظِيمَ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَوْ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ثُمَّ رَفَعَ
رَأْسَهُ ثُمَّ عَادَ سَاجِدًا فَقَالَ: أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ،
وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ

نَفْسِكَ، أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي دَاوُدُ: أَعْفِرُ وَجْهِي فِي التُّرَابِ
 لِسَيِّدِي، وَحَقُّ لِسَيِّدِي أَنْ يُسْجِدَ لَهٗ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ
 ارْزُقْنِي قَلْبًا نَقِيًّا مِنَ الشَّرِّ لَا جَافِيًا وَلَا شَقِيًّا ثُمَّ انْصَرَفَ وَدَخَلَ
 مَعِيَ فِي الْخَمِيْلَةِ وَلِيَ نَفْسُ عَالٍ. فَقَالَ مَا هَذَا النَّفْسُ يَا
 حَمِيرَاءُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَطَفِقَ يَمْسَحُ بِيَدِهِ عَلَى رُكْبَتِي وَهُوَ يَقُولُ
 وَيُسَّ هَاتَيْنِ الرُّكْبَتَيْنِ مَا لَقِيْتَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ. لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ
 شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا
 لِمُشْرِكٍ أَوْ لِمُشَاحِنٍ.

- کتاب الدعاء (طبرانی) صفحہ نمبر 195 -

- النزول (دارقطنی) حدیث نمبر 75 -

- شعب الایمان (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 385 -

- التبرہ (ابن جوزی) المجلس الخامس فی ذکر اللیلۃ النصف من شعبان -

- امالی المطلقہ (عسقلانی) صفحہ نمبر 120 -

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی
 پندرہویں شب میں میری باری تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس
 تشریف فرما تھے۔ جب رات آدھی گزر گئی تو میں نے آپ کو نہ پایا۔ چنانچہ
 میرے دل میں عام عورتوں کی طرح خیال آیا تو میں نے چادر اوڑھی اللہ کی قسم وہ
 چادر نہ توری شمی (حریر اور دیباچ ریشم کی اقسام) تھی اور نہ ہی سوتی (کتان
 باریک کپڑا) عرض کیا گیا کہ اے ام المؤمنین وہ چادر کس چیز سے بنی ہوئی تھی؟

آپ نے فرمایا کہ اس کا تانا بکری کے بالوں کا اور بانا اونٹوں کے بالوں کا بنا تھا۔ میں نے آپ کو ازواجِ مطہرات کے کمروں میں تلاش کیا مگر آپ کو نہ پاسکی جب میں واپس لوٹی تو میں نے دیکھا کہ آپ میرے حجرے میں (سجدہ میں) ایسے پڑے تھے جیسے کوئی کپڑا پڑا ہوتا ہے درانحالیکہ آپ کہہ رہے تھے:

سَجَدَكَ خِيَالِي وَسَوَادِي وَأَمَّنْ بِكَ فَوَادِي، وَهَذِهِ يَدِي
وَمَا جَنَيْتُ بِهَا عَلَى نَفْسِي يَا عَظِيمًا تُرْجِي لِكُلِّ عَظِيمٍ، يَا عَظِيمٍ
إِغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ، سَجَدَ وَجْهِي لِلذِّي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ
وَبَصَرَهُ.

پھر آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا پھر دوبارہ سجدہ فرمایا اور یہ کہنا شروع کیا:
أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي
دَاوُدُ: أَعْفِرْ وَجْهِي فِي التُّرَابِ لِسَيِّدِي، وَحَقُّ لِسَيِّدِي أَنْ يُسْجَدَ لَهُ
پھر آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور یہ کہنا شروع کیا:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَلْبًا نَقِيًّا مِنَ الشَّرِّ لَا جَافِيًّا وَلَا شَقِيًّا.

پھر آپ واپس پلٹے اور میری چادر میں تشریف لائے اس وقت میری سانس پھولی ہوئی تھی آپ نے فرمایا: اے حمیرا تمہاری سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟۔ میں نے تمام معاملہ عرض کر دیا تو آپ نے میرے زانوؤں کو مس کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بھی جسمانی محنت (عبادت) کرنا پڑی آج کی رات کی ہی

ہے۔ مزید فرمایا کہ اس رات نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت نزول فرماتی ہے پس وہ مشرک اور کینہ پرور کے سوا اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

﴿6﴾

فضائل شب برات کی محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام کی غرض سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا۔ میں نے ان سے جلدی اجازت چاہتے ہوئے عرض کیا کہ جلدی کریں کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ آپ صحابہ کرام کو نصف شعبان کے بارے میں بیان فرما رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے انیس بیٹھ جاؤ میں تجھے نصف شعبان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے ہاں ٹھہرنے کی باری تھی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس لحاف میں داخل ہو گئے میں رات کو بیدار ہوئی تو میں نے آپ کو بستر میں نہ پایا۔ میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی لونڈی ماریہ قطیبہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ پس میں گھر سے نکلی اور مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ سے ٹکرایا اس وقت سجدہ میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرما رہے تھے۔

سَجَدَاكَ سَوَادِي وَخِيَالِي وَأَمِنْ بِكَ فَوَادِي، وَهَذِهِ يَدِي وَ
 مَا جَنَيْتُ بِهَا عَلَى نَفْسِي يَا عَظِيمًا يُرَجِي لِكُلِّ عَظِيمٍ إِغْفِرِ الذَّنْبَ
 الْعَظِيمَ، سَجَدُ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
 پھر آپ نے اپنا سراٹھایا اور یہ دعا کی:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَلْبًا تَقِيًّا نَقِيًّا مِنَ الشِّرْكِ بَرِيًّا لَا كَافِرًا وَلَا شَقِيًّا
 پھر آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دوبارہ سجدہ کیا میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا
 أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ
 مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ، أَقُولُ كَمَا
 قَالَ أَخِي دَاوُدُ: أَعْفِرْ وَجْهِي فِي التُّرَابِ لِسَيِّدِي، وَحَقُّ لِرُوحِهِ
 سَيِّدِي أَنْ يُعْفَرَ.

پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ
 آپ پر قربان ہوں آپ کس وادی میں ہیں۔ اور میں کس وادی میں تھی (یعنی
 آپ کس کام میں مصروف ہیں جب کہ میں کن خیالات میں تھی)۔ پس آپ صلی
 اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ اے حمیرا کیا تو اس رات کی فضیلت جانتی ہے؟۔
 بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر
 جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قبیلہ کلب والوں کی تخصیص کیا وجہ
 ہے؟۔ آپ نے فرمایا کہ: عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلہ کی بکریوں کے بال
 ان سے زیادہ نہیں ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ: چھ قسم کے آدمیوں کی اس رات میں

بھی بخشش نہیں ہوگی:

1: عادی شرابی 2: والدین کا نافرمان 3: زنا پر اصرار کرنے والا 4: رشتہ

داروں سے تعلق توڑنے والا 5: تصویر بنانے والا 6: چغتل خور

- فضائل الاوقات (بیہقی) حدیث نمبر 27-

- مکاشفۃ القلوب از امام غزالی صفحہ نمبر 314-

- لسان المیزان (عسقلانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36-

- میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150-

﴿7﴾

شب برات کی فضیلت پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

کی ایک اور روایت

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَرْفُوعاً: يَنْسَخُ اللَّهُ فِي أَرْبَعِ
لَيَالٍ الْأَجَالَ وَالْأَرْزَاقَ: فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَالْأَضْحَى
وَالْفِطْرِ وَلَيْلَةِ عَرَفَةَ.

- لسان المیزان (عسقلانی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249-

- موسوعۃ اقوال الدار قطنی (حرف السین) جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 76-

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مرفوعاً روایت کرتی ہیں کہ چار راتوں میں موت

کے وقت کا اور رزق کا تعین کیا جاتا ہے۔ اور وہ راتیں ہیں نصف شعبان کی رات

(شب برات)، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات اور شب عرفہ (یعنی نویں ذوالحجہ)

﴿8﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک مزید روایت

عَنْ عَائِشَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَفْتَحُ
اللَّهُ الْخَيْرَ فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةَ الْأَضْحَى وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ
النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْسَخُ فِيهَا الْأَجَالَ وَالْأَرْزَاقَ وَيَكْتُبُ فِيهَا
الْحَاجَّ وَفِي لَيْلَةِ الْعَرَفَةِ إِلَى الْأَذَانِ.

- تاج بغداد خطیب بغدادی (کما ذکر سیوطی)

- تفسیر درمنثور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 402۔

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347۔

- التبصرة (ابن جوزی) المجلس الخامس فی ذکر اللیلة النصف من شعبان۔

- دیلمی کما ذکر علی متقی۔

- کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 144۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں حضور صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ

تعالیٰ چار راتوں میں خیر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ عید الفطر کی شب، عید الاضحیٰ کی

شب، نصف شعبان کی شب کہ اس میں لوگوں کی موت اور رزق کا فیصلہ کیا جاتا

ہے اور حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور عرفہ کی رات میں بھی صبح کی اذان تک

خیر کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔

﴿9﴾

اللہ تعالیٰ کی شبِ برات میں خانہ کعبہ پر خصوصی نظر کرم فرمانا

عَنْ (عَائِشَةَ وَ) ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَلْحَظُ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي كُلِّ عَامٍ لَحْظَةً وَذَلِكَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَجِبُ إِلَيْهَا قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ.

- دیلمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 -

- جامع الاحادیث (سیوطی) نمبر 7335 -

- الجامع الکبیر (سیوطی) حدیث نمبر 2782 -

- کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 96 -

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی طرف سال میں ایک لحظہ کے لئے خصوصی نظر کرم فرماتا ہے اور وہ ہے نصف شعبان کی رات اسی وقت مومنوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف بھر پور طور پر مائل ہو جاتے ہیں۔

﴿10﴾

خانہ کعبہ بھی قبلہ شبِ برات والے دن بنا

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَلَّى الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ بَعْدَ قُدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ

سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سِوَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ قُدُومَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِإِثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَّتْ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَأَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ . قَالَ شُعَيْبُ الْأَرْنَؤُوطُ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا .

- صحیح ابن حبان کتاب الصلوٰۃ باب شروط الصلوٰۃ -

- تفسیر قرطبی تحت سورۃ البقرۃ آیہ نمبر 142 -

- تفسیر السراج المنیر تحت سورۃ منزل آیت نمبر 2 -

- عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385 -

- روضۃ الطالبین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 498 -

حضرت امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تشریف کے سترہ ماہ اور تین دن تک برابر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم مدینہ منورہ میں بارہ ربیع الاول بروز پیر وار تشریف لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم منگل وار شبِ برات کے دن عطا فرمایا۔

شعیب ارنؤوط نے کہا ہے کہ یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔

نوٹ: قبلہ کی شبِ برات والے دن خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی کے مزید

دلائل حسب ذیل ہیں:

- تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18۔
- تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 252۔
- تاریخ مکہ المشرفة والمسجد الحرام باب ذکر المساجد المعروفة۔
- السيرة النبوية از ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 372۔ باب تحویل القبلة۔
- الفصول فی السيرة ابن کثیر باب تحویل القبلة وفرض الصوم۔
- عیون الاثر ابن سید الناس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 363۔ باب تحویل کعبہ۔

﴿11﴾

حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا سجدہ تہائی امت، نصف امت بلکہ

تمام امت کی مغفرت

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَاجِدًا وَهُوَ يَدْعُو فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْتَقَ مِنَ النَّارِ اللَّيْلَةَ بِشَفَاعَتِكَ ثُلُثَ فَرَادَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الدُّعَاءِ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُقْرِنُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: أَعْتَقْتُ نِصْفَ أُمَّتِكَ مِنَ النَّارِ فَرَادَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الدُّعَاءِ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَعْتَقَ جَمِيعَ أُمَّتِكَ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ خَصْمٌ حَتَّى يَرْضَى خَصْمَهُ. فَرَادَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الدُّعَاءِ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عِنْدَ الصُّبْحِ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ

قَدْ ضَمِنَ لِخُصَمَاءِ أُمَّتِكَ أَنْ يُرْضِيَهُمْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ فَرَضِيَ
النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

- تفسیر روح البیان تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4 -

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو نصف شعبان کی شب دیکھا کہ آپ سجدہ کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ پس جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی ایک تہائی امت کی مغفرت فرمادی ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم مزید التجا کرتے رہے یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرمادی۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم مزید التجا کرتے رہے یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمادیا۔ سوائے ایسے شخص کے کہ جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم پھر التجا کرتے رہے حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے راضی فرمادے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے۔

﴿12﴾

ایام بیض اور شب برات

لَمَّا رَوَى أَنَّهُ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِ عَشَرَ الشَّفَاعَةَ فِي
 أُمَّتِهِ، فَأَعْطَاهُ الثَّلَاثَ، وَسَأَلَهُ لَيْلَةَ الرَّابِعِ عَشَرَ فَأَعْطَاهُ الثَّلَاثِينَ
 وَسَأَلَهُ لَيْلَةَ الْخَامِسِ عَشَرَ فَأَعْطَاهُ الْجَمِيعَ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللَّهِ
 شَرَادَ الْبَعِيرِ يَعْنِي مَنْ فَرَّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَتَبَاعَدَ عَنْهُ بِالْإِصْرَارِ
 عَلَى الْمَعْصِيَةِ.

- مکاشفۃ القلوب از امام غزالی صفحہ نمبر 314۔

- تفسیر نیشاپوری سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر کشاف سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر السراج المنیر سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر روح البیان جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 268۔

- تفسیر روح المعانی پارہ نمبر 25 صفحہ نمبر 155۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تیرہ شعبان کو اپنی امت کے
 بارے میں دعا مانگی آپ کو ایک تہائی عطا کر دیا گیا۔ پھر چودہ شعبان کو دعا مانگی تو
 آپ کو دو تہائی عطا کر دیا گیا۔ پھر آپ نے پندرہ شعبان کو دعا مانگی تو آپ کو
 امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق سب کچھ
 عطا کر دیا گیا سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے۔

﴿13﴾

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو

شب برات کی شان بیان فرمانا

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: أَتَدْرِينَ مَا فِي هَذِهِ
 اللَّيْلَةِ يَعْنِي نِصْفَ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَتْ مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟
 قَالَ: فِيهَا أَنَّهُ يُكْتَبُ كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا
 يُكْتَبُ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ
 وَفِيهَا تَنْزَلُ أَرْزَاقُهُمْ.

- الدعوات الکبیر از امام بیہقی -

- مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 115 -

- غدیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345 -

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کیا تو جانتی ہے کہ اس شب یعنی نصف شعبان کی شب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ اس رات میں کیا خاص بات ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس سال حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ہر مرنے والے بیٹے کے نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں لوگوں کے اعمال بلند کئے جاتے ہیں اور لوگوں کے رزق بھی اتارے جاتے ہیں۔

﴿14﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک مزید روایت

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَانِي حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَأَوَى إِلَيَّ فِرَاشِهِ ثُمَّ قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ. ثُمَّ خَرَجَ مُسْرِعًا فَخَرَجْتُ فِي أَثَرِهِ فَإِذَا هُوَ سَاجِدًا بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَقُولُ سَجَدَ لَكَ خِيَالِي وَسَوَادِي الْخ.

- رواہ ابن شاہین کما ذکر عسقلانی -

- لسان المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 426 -

- میزان الاعتدال (عسقلانی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 65 -

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا

کہ نصف شعبان کی شب میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ چنانچہ آپ بستر پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خود پر پانی بہایا پھر آپ تیزی سے باہر تشریف لے گئے۔ چنانچہ میں بھی آپ کے پیچھے گئی تو آپ جنت البقیع میں سجدہ کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے۔ سَجَدَ لَكَ خِيَالِي وَسَوَادِي الْخ.

﴿15﴾

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شبِ برات کا تمام مہینہ روزے رکھنا

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ

بِرَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرًا تَامًا إِلَّا شَعْبَانَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّ شَعْبَانَ لَمِنْ أَحَبِّ الشُّهُورِ إِلَيْكَ أَنْ تَصُومَهُ؟ قَالَ نَعَمْ يَا
عَائِشَةُ إِنَّهُ يُكْتَبُ فِيهِ لِمَلِكِ الْمَوْتِ مَنْ يَقْبِضُ فَأَحِبُّ أَنْ لَا يُنْسَخَ
إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ.

- تاریخ بغداد از ولی الدین خطیب بغدادی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 436۔

- رواہ ابن نجار کما ذکر السیوطی فی الدر المنثور۔

- التبصرہ از ابن جوزی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39۔

- تفسیر درمنثور تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔

- الحبا تک فی اخبار الملائک (سیوطی) باب ماجاء فی ملک الموت۔

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ
علیہ والہ وسلم شعبان المعظم میں روزے رکھتے اور اسے ماہِ رمضان المبارک تک
ملا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم شعبان المعظم کے علاوہ کسی بھی اور مہینہ میں
مہینہ بھر کے روزے (نفلی) نہیں رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں
کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان المعظم تمام مہینوں
میں سے آپ کو زیادہ پسند ہے جس میں آپ روزے رکھتے ہیں؟۔ آپ نے
ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ بے شک ملک الموت کو ان لوگوں کے اسماء لکھ کر دے
دیئے جاتے ہیں جن کی اس سال موت کا وقت آچکا ہوتا ہے۔ اور میں پسند کرتا
ہوں کہ روزہ داری کی حالت میں میرا وقت مقرر ہو۔

﴿16﴾

حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کا بیان شبِ برات کا قیام، دن کا روزہ
 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فقوموا ليلاً
 و صوموا نهارها. فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِيُغْرِبَ الشَّمْسُ إِلَى سَمَاءِ
 الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا
 مُبْتَلَى فَاَعَافِيَهُ أَلَا كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

نوٹ: قاغفر، فارزقہ اور قاغافیہ کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے۔

- سنن ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلاۃ والسنة فیہا باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان

- شعب الایمان (نیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378۔

- فردوس الاخبار (دیلمی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 321۔

- مسند الفردوس (دیلمی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259۔

- عمدۃ القاری (بدرالدین عینی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 82۔

- مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 115۔

- مرقاۃ (علامہ علی قاری) شرح مشکوٰۃ کتاب الصلاۃ باب قیام شہر رمضان۔

- تہذیب الکمال (مزنی) جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 107۔

- احیاء علوم الدین (غزالی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔

- اخبار مکہ (فاکھی) حدیث نمبر 1773۔

- جامع الاحادیث (سیوطی) حدیث نمبر 2621۔

- امالی امین بشران حدیث نمبر 703۔

- فضائل الاوقات (نیہتی) حدیث نمبر 24۔
- الترغیب والترہیب (منذری) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74۔
- میزان الاعتدال (ذہبی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 504۔
- تہذیب الکمال (مزنی) جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 107۔
- جمع الجوامع (سیوطی) حدیث نمبر 2632۔
- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345۔
- کنز العمال (علی المصطفیٰ) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 140۔
- نزہۃ المجالس (عبدالرحمن صفوری) صفحہ نمبر 210۔
- تفسیر قرطبی تحت الدخان آیت نمبر 4۔
- تفسیر درمنثور (سیوطی) تحت الدخان آیت نمبر 4۔
- تفسیر روح المعانی (آلوسی) تحت الدخان آیت نمبر 4۔
- ما ثبت بالسنۃ (شیخ محقق) صفحہ نمبر 191۔
- تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 433۔

حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پندرہ شعبان کی شب آئے تو رات قیام (عبادت) کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ پس بے شک سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرما کر ارشاد فرماتا ہے۔ ہے کوئی تم میں سے مغفرت طلب کرنے والا؟ کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا؟ کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ؟ کہ میں اس کو عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہ آوازیں طلوع فجر تک مسلسل آتی رہتی ہیں مسلسل آتی ہیں۔

﴿17﴾

حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کی شبِ برات کی خصوصی دعا

وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْرُغُ نَفْسَهُ
لِلْعِبَادَةِ فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ فِي السَّنَةِ وَهِيَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ
الْفِطْرِ، وَلَيْلَةُ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ. وَكَانَ مِنْ
دُعَائِهِ فِيهَا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مَصَابِيحَ الْحِكْمَةِ
وَمَوَالِي النِّعْمَةِ، وَمَعَادِينِ الْعِصْمَةِ، وَاعْصِمْنِي بِهِمْ مِنْ كُلِّ سُوءٍ،
وَلَا تَأْخُذْنِي عَلَى غُرَّةٍ وَلَا عَلَى غَفْلَةٍ، وَلَا تَجْعَلْ عَوَاقِبَ أَمْرِي
حَسْرَةً وَنَدَامَةً. وَارْضِ عَنِّي، فَإِنَّ مَغْفِرَتَكَ لِلظَّالِمِينَ وَأَنَا مِنَ
الظَّالِمِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ وَاعْطِنِي مَا لَا يَنْفَعُكَ، فَإِنَّكَ
الْوَاسِعَةُ رَحْمَتُهُ، الْبَدِيعَةُ حِكْمَتُهُ. فَأَعْطِنِي السَّعَةَ وَالِدِّعَةَ
وَالْأَمْنَ وَالصِّحَّةَ وَالشُّكْرَ وَالْمُعَافَاةَ وَالتَّقْوَى وَالصَّبْرَ وَالصِّدْقَ
عَلَيْكَ وَعَلَى أَوْلِيَاءِكَ، وَاعْطِنِي الْيُسْرَمَعَ الْعُسْرِ، وَاعْمِمْ بِذَلِكَ
أَهْلِي وَوَلَدِي وَأَخْوَتِي فِيكَ وَمَنْ وَلَدَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

۔ غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خود کو نفلی عبادت و ریاضت کے لئے

خصوصاً ان چار راتوں میں زیادہ مشغول کرتے تھے: رجب کی پہلی رات، عید

الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور نصف شعبان کی رات (شب برات) ان راتوں میں آپ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مَصَابِيحَ الْحِكْمَةِ وَمَوَالِي
النِّعْمَةِ، وَمَعَادِينِ الْعِصْمَةِ، وَاعْصِمْنِي بِهِمْ مِنْ كُلِّ سُوءٍ،
وَلَا تَأْخُذْنِي عَلَى غَرَّةٍ وَلَا عَلَى غَفْلَةٍ، وَلَا تَجْعَلْ عَوَاقِبَ أَمْرِي
حَسْرَةً وَنَدَامَةً. وَارْضِ عَنِّي، فَإِنَّ مَغْفِرَتَكَ لِلظَّالِمِينَ وَأَنَا مِنَ
الظَّالِمِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ وَاعْطِنِي مَا لَا يَنْفَعُكَ، فَإِنَّكَ
الْوَاسِعَةُ رَحْمَتُهُ، الْبَدِيعَةُ حِكْمَتُهُ. فَأَعْطِنِي السَّعَةَ وَالِدِّعَةَ وَالْأَمْنَ
وَالصِّحَّةَ وَالشُّكْرَ وَالْمُعَافَاةَ وَالتَّقْوَى وَالصَّبْرَ وَالصِّدْقَ عَلَيْكَ
وَعَلَى أَوْلِيَاءِكَ، وَاعْطِنِي الْيُسْرَمَعَ الْعُسْرِ، وَاعْمِمْ بِذَلِكَ أَهْلِي
وَوَلَدِي وَأَخْوَتِي فِيكَ وَمَنْ وَلَدَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

﴿18﴾

حضرت داؤد علیہ السلام کی شب برات اور حضرت علی کا بیان

عَنْ نَوْفِ الْبَكَالِي قَالَ: إِنْ عَلِيًّا خَرَجَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ
شُعْبَانَ فَأَكْثَرَ الْخُرُوجَ فِيهَا يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: إِنْ دَاوُدَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ ذَاكَ لَيْلَةٍ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ فَنَظَرَ إِلَى

السَّمَاءِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ مَدَعَى اللَّهِ أَحَدٌ إِلَّا أَجَابَهُ وَلَا
 اسْتَغْفَرَهُ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَشَارًا أَوْ
 سَاحِرًا أَوْ شَاعِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَرِيفًا أَوْ شُرْطِيًّا أَوْ جَابِيًّا
 أَوْ صَاحِبَ كُوبَةٍ أَوْ غَرُطَبَةٍ. قَالَ نُوفٌ: الْكُوبَةُ الطَّبَلُ
 وَالْغَرُطَبَةُ: الطَّنْبُورُ. (قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) اللَّهُمَّ رَبِّ دَاوُدَ
 اغْفِرْ لِمَنْ دَعَاكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَكَ فِيهَا.

- لطائف المعارف باب المجلس الثاني في نصف من شعبان -

- ثابت بالنسبة (شيخ محقق شيخ عبدالحق محدث دہلوی) صفحہ نمبر 191 -

حضرت سیدنا مولیٰ علی رضی اللہ عنہ پندرہ شعبان کی شب تشریف
 لائے۔ اس رات آپ اکثر باہر تشریف لایا کرتے تھے آپ نے آسمان کی
 طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ ایک دفعہ اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک
 رات میں تشریف لائے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا کہ یہ وہ وقت
 ہے کہ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا فرمائے
 گا۔ اور جو مغفرت طلب کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ بشرطیکہ وہ
 جادوگر، کابن، مجنم، جلاد، مال نکالنے والا، گانے والا، اور ساز بجانے والا نہ
 ہو۔ نوفل (راوی روایت) نے کہا کہ کوبہ طبل کو اور عرطہ طنبورہ کو کہتے
 ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی: اے اللہ اے حضرت داؤد علیہ
 السلام کے رب جو مسلمان بھی اس رات میں کوئی بھی دعا مانگے یا تجھ سے

مغفرت مانگے تو تو اس کی دعا قبول فرمائے۔ یقیناً تیری رحمت پندرہویں شعبان کو نازل ہوتی ہے مشرک اور قطع رحمی کرنے والے کے سوا تو سب کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

﴿19﴾

حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا شبِ برات منانا

عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ لَيْلَةِ الصَّكِّ يَعْنِي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَعَنِ الْعَمَلِ فِيهَا فَقَالَ: أَنَا أَجْعَلُهَا ثَلَاثًا فَتِلْكَ أَصَلِّي فِيهِ عَلَى جَدِّي النَّبِيِّ ﷺ ائْتِمَارًا لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَيْثُ يَقُولُ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" وَتِلْكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ مَثْنِي، مَثْنِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" وَتِلْكَ أَرْكَعُ فِيهِ وَأَسْجُدُ ائْتِمَارًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَأَسْجُدُوا اقْتَرَبُ" فَقُلْتُ: وَمَا ثَوَابُ ذَلِكَ مَنْ فَعَلَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَحْيَى الصَّكَّ كُتِبَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ يَعْنِي الَّذِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ.

۔ القول البدیع از سخاوی صفحہ نمبر 208۔

حضرت طاؤس یمانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے لیلۃ الصک (شبِ برات) اور اس میں

عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس رات کے تین حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں نانا جان پر درود شریف بھیجتا ہوں بحکم خداوندی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"

ترجمہ اے ایمان والو! تم حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر درود اور سلام کی کثرت کرو۔ ایک تہائی حصہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بناء پر "وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" ترجمہ: اور جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور ایک تہائی حصہ میں (نوافل) رکوع و سجود کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بناء پر "وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ"

ترجمہ: اور سجدہ کرو اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ میں (طاؤس) نے عرض کیا کہ جو ایسا کرے گا اس کا کیا ثواب ہوگا؟۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے والد محترم سے سنا انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی لیلۃ الصک (شبِ برات) کو (عبادت کے ساتھ) زندہ رکھا وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں لکھا جائے گا۔ یعنی ایسے لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاِمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔

﴿20﴾

حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اور حضرت وائلہ بن الاسقع

رضی اللہ عنہم اور شب برات

وَكَانَ فِي هَذِهِ السَّرِيَةِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرَ وَائِلَةَ بْنِ
 الْأَسْقَعِ وَكَانَ خُرُوجُهُمْ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ وَهِيَ دِمَشْقُ إِلَى دَيْرِ
 أَبِي الْقُدْسِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَكَانَ الْقَمَرُ زَائِدَ النُّورِ
 وَقَالَ: وَأَنَا إِلَى جَانِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرَ. فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ
 الْأَسْقَعِ مَا أَحْسَنُ قَمَرٌ هَذِهِ اللَّيْلَةُ وَأَنْوَارُهُ. فَقُلْتُ يَا ابْنَ عَمِّ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ اللَّيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَهِيَ لَيْلَةُ
 مُبَارَكَةٍ عَظِيمَةٍ وَفِي هَذِهِ تُكْتَبُ الْأَرْزَاقُ وَالْأَجَالُ وَتُغْفَرُ فِيهَا
 الذُّنُوبُ وَالسَّيِّئَاتُ. وَكُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَهَا. فَقُلْتُ: إِنْ سِيرْنَا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِهَا وَاللَّهُ جَزِيلُ الْعَطَاءِ. فَقَالَ: صَدَقْتَ.

- فتوح الشام جلد نمبر 1 صفحہ 90 -

حضرت سیدنا وائلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں

حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے۔ آپ ملک شام

کے شہر دمشق سے ابوالقدس کے کلیسا کی طرف چلے اور یہ رات نصف شعبان کی

رات یعنی شب برات تھی اور اس دن چاند کی روشنی عام دنوں سے کہیں زیادہ تھی

حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تو چلتے چلتے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے مجھے کہا: اے ابن الاسقع آج چاند اور اس کی روشنی کس قدر حسین ہے؟۔ میں نے کہا کہ اے ابن عم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج نصف شعبان کی رات ہے۔ اور یہ بڑی عظیم رات ہے۔ اس میں رزق اور موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، گناہوں اور غلطیوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور میں اردہ کرتا رہا کہ اس شب میں میں قیام کروں۔ لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر کہا کہ اگر ہم آج رات جہاد کے لئے مسلسل چلتے رہے تو یہ رات کو ٹھہر کر عبادت کرنے سے زیادہ ثواب کا باعث ہوگا، جب کہ اللہ تعالیٰ کی عطاء بہت ہی زیادہ ہے (یعنی شبِ برات میں ہم عبادت نہ کر سکے کیوں کہ ہم حالتِ جہاد میں پہلے ہی عبادت میں ہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کی برکت سے ہمیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا)۔ انہوں نے کہا کہ تم نے بالکل سچ کہا ہے۔

﴿21﴾

گناہ گاروں کی زبان اور اللہ تعالیٰ کا نام

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَحُجُّبُ الْقَوْلَ لِإِلَهِ

إِلَّا اللَّهُ عَنِ اللَّهِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ فَمِّ صَاحِبِ الشَّارِبِينَ لَيْلَةَ
النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

۔ دیلمی جلد 5 صفحہ نمبر 166۔

- جامع الاحادیث (سیوطی) حدیث نمبر 17537 -

- الجامع الکبیر (سیوطی) حدیث نمبر 1602 قول لا الہ الا اللہ -

- کنز العمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 144 -

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں سوائے شرابی کے منہ سے نکلنے کے کلمہ لا الہ الا اللہ کوئی بھی کہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔

﴿22﴾

شب برات کی اہمیت پر حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی روایت

عَنْ أَبِي الثَّعْلَبَةِ الْخُسَيْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَطَّلَعَ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ
 فَيَغْفِرُ لِمُؤْمِنِينَ وَيَمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَيَدْعُ أَهْلَ الْحَقْدِ بِحَقْدِهِمْ
 حَتَّى يَدْعُوهُ.

- طبرانی کبیر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 224 -

- کتاب العرش (ابن ابی شیبہ) صفحہ نمبر 94 -

- کتاب النزول (دارقطنی) حدیث نمبر 65+66 -

- السنن ابن ابی عاصم (تحقیق البانی) حدیث نمبر 511 -

- فضائل الاوقات (بیہقی) صفحہ نمبر 121 -

- السنن الصغیر (بیہقی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379 - کتاب الزکوٰۃ باب الصوم فی شعبان -

- شعب الایمان (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 381 -

- معجم الصحابة (ابن قانع) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 -

- مجمع الزوائد (بیہقی) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 127۔

- جامع الاحادیث (سیوطی) حدیث نمبر 2620۔ 7266+

- جمع الجوامع (سیوطی) حدیث نمبر 2631۔

- کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 141۔

- الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 308، (امام منذریؒ نے کہا امام بیہقیؒ نے اسے مرسل جید کہا ہے)

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348۔

- الاتحاف جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 282۔

- الزواجر (ابن حجر مکی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60۔

- تفسیر درمنثور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 26۔

- السلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135۔ (البانی: صحیح) مکتبۃ المعارف بیروت

- صحیح الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 34۔ (البانی: صحیح لغیرہ)

- ظلال الجہنم تخریج السنۃ لابن ابی عاصم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264۔ (البانی: صحیح)

حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ

والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پندرہ شعبان آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی

طرف توجہ فرماتا ہے اور مومنوں کے لئے مغفرت فرماتا ہے اور کافروں کے لئے

جہنم بھرتا ہے اور وہ کینہ پروروں کو ان کا کینہ دور کرنے کے لئے بلاتا ہے۔ یہاں تک

کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ٹھتے ہیں اور اپنا کینہ چھوڑ دیتے ہیں۔

﴿23﴾

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک روایت

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَيِّغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا
مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ -

- طبرانی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 108

- طبرانی اوسط جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 36-

- شعب الایمان (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 + جلد 5 صفحہ نمبر 272-

- صحیح ابن حبان جلد 5 صفحہ نمبر 351-

- مسند شامیین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 + 130 + جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 365-

- ابن عساکر جلد نمبر جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 235 + 54 صفحہ نمبر 97-

- موارد النظمآن (یثمی) باب فی ذی الحجین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 486-

- مجمع الزوائد (یثمی) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 126-

- حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 191-

- کتاب النزول (دارقطنی) حدیث نمبر 64-

- فضائل الاوقات (بیہقی) حدیث نمبر 22-

- کنز العمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 188-

- الترغیب والترہیب (منذری) جلد 3 صفحہ نمبر 307- (منذری نے کہا کہ اس کی اسناد میں کوئی حرج نہیں ہے)

- تفسیر درمنثور سورۃ الدخان آیہ نمبر 4-

- السنۃ ابن ابی عاصم (تحقیق البانی) حدیث نمبر 512-

- صحیح الترغیب والترہیب (البانی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 + جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33 (البانی: حسن صحیح)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے

ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شبِ برات میں اپنی مخلوق

کی طرف توجہ فرماتا ہے اور مشرک اور مشاحن کے سوا سب کی مغفرت فرمادیتا ہے

﴿24﴾

شب برات سمیت پانچ راتوں کا زندہ کرنا اور جنت کا وجوب

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِي الْخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ: لَيْلَةُ التَّرْوِيَةِ وَلَيْلَةُ عَرَفَةَ وَلَيْلَةُ النَّحْرِ وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

- الترغيب والترہیب (اصحباتی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 248۔

- الترغيب والترہیب (منذری) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98۔

- تفسیر روح البیان سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- لوائح الانوار القدسیہ فی المعجم والحمد یہ صفحہ نمبر 92۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پانچ راتیں بیدار رہ کر عبادت میں گزاریں اس کے لئے جنت واجب ہے۔ وہ پانچ راتیں یہ ہیں لیلۃ الترویہ، لیلۃ النحر، لیلۃ عرفہ (نویں اور دسویں ذوالحجہ کی رات)، عید الفطر کی شب اور شب برات۔

﴿25﴾

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع روایت

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنَ الرَّجَبِ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ وَلَيْلَةُ النَّحْرِ.

- نوٹ: یہی روایت امام شافعیؒ سے سنن کبریٰ (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319 پر
 - فردوس الاخبار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311۔
 - دیلمی حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196۔
 - ابن عساکر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 408۔
 - مختصر ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 702۔
 - تہذیب ابن عساکر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 299۔
 - التبصرہ (ابن جوزی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50۔
 - جامع الاحادیث (سیوطی) حدیث نمبر 11979۔
 - الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 821۔
 - فیض القدر شرح الجامع الصغیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 454۔
 - التیسیر شرح الجامع الصغیر (مناوی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1056۔

سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ
 و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ماہِ رجب کی پہلی
 رات، 15 شعبان کی رات (شبِ برات)، جمعہ کی رات اور عید الفطر کی رات
 اور عید الاضحیٰ کی رات۔

﴿26﴾

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی ایک اور مرفوع روایت

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْبِطُ
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الْأُنْيَا إِلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ
 شَعْبَانَ فَيَطَّلِعُ إِلَيْهِمْ ، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ، وَكُلِّ مُسْلِمٍ

وَمُسْلِمَةٍ، إِلَّا كَافِرًا أَوْ كَافِرَةً أَوْ مُشْرِكًا أَوْ مُشْرِكَةً أَوْ رَجُلًا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ أَخِيهِ مُشَاحِنَةٌ وَيَدْعُ أَهْلَ الْحَقِّ لِحَقِّهِمْ.

۔ المجلس العشرہ حسن بن خلّال حدیث نمبر 3۔

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ
والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شبِ برات میں آسمانِ دنیا پر اترتی
ہے اور ہر مومن مرد اور عورت کی مغفرت فرماتا ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت کی
مغفرت فرماتا ہے سوائے کافر مرد اور عورت کے، مشرک مرد اور عورت کے اور
ایسے شخص کے، کہ جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان رنجش ہو اور کینہ
پروروں کو ان کی کینہ پروری کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

﴿27﴾

پانچ مقدس راتیں

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ
الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَأَوَّلُ لَيْلَةِ الرَّجَبِ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ
شَعْبَانَ وَلَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ.

۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317۔

۔ شعب الایمان (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 342۔

۔ فضائل الاوقات (بیہقی) حدیث نمبر 149۔

۔ دیلمی شریف حدیث نمبر 2975۔

۔ تفسیر روح البیان سورۃ الدخان تحت آیت نمبر 4۔

حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ راتوں میں دعا رو نہیں ہوتی۔ رجب کی پہلی رات، پندرہ شعبان کی رات، جمعہ کی رات اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں۔

﴿28﴾

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک اور مرفوع روایت

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَطَّلِعُ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ۔

- مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176۔

- المجالس عشرہ نمبر حدیث نمبر 2۔

- مشکوٰۃ صفحہ نمبر 115۔

- مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 126۔

- غایۃ المقصد (پیشمی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409 کتاب الادب باب فی الحج ان۔

- الترغیب والترہیب (منذری) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 308۔

- جامع الاحادیث حدیث نمبر 26839۔

- الزواجر (ابن حجر مکی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59۔

- تفسیر روح المعانی (آلوسی) تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ

والہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب (شب برات)

اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے کینہ پرور اور خودکشی کرنے والے کے سوا اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

﴿29﴾

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لَجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا الْمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنٍ۔

- سنن ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلاۃ والسنۃ فیہا باب ما جاء فی لیلة النصف من شعبان

- السنۃ ابن ابی عاصم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 510۔ (تحقیق البانی)

- النزول (دار قطنی) حدیث نمبر 76۔

- شعب الایمان (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382۔

- ابن عساکر جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 326۔

- تحفۃ الاشراف (مزنی) حدیث نمبر 9006۔

- تہذیب الکمال (مزنی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 308۔

- مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 314۔

- مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 115۔

- الجامع الصغیر (سیوطی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384۔

- جامع الاحادیث (سیوطی) حدیث نمبر 7085۔

- کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 140۔

- السلسلۃ الصحیحۃ المختصرۃ (البانی) روایت نمبر 1144 + 1563۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الریاض

- السلسلۃ الصحیحۃ (البانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135۔ (صحیح)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پندرہ شعبان کی شب کو اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔

﴿30﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ إِلَّا الْمُشْرِكِ أَوْ مُشَاجِرٍ.

- امالی ابن سمعون حدیث نمبر 66 + حدیث نمبر 168 -

- تاریخ بغداد جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 285 -

- مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ نمبر 126 -

- رواہ الہیزار کما ذکر الہیثمی والسیوطی -

- کشف الاستار فی زوائد الہیزار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 436 -

- ربیع الا برار (زبختری) باب الاوقات ذکر الدنیا والاخرۃ -

- جامع الاحادیث (سیوطی) حدیث نمبر 2623 -

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: حضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ سوائے مشرک اور کینہ پرور کے

سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔

﴿31﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :
تُقَطَّعُ الْأَجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ ، حَتَّى أَنْ الرَّجُلَ لَيَنْكِحَ
وَيُولَدَ لَهُ وَلَقَدْ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى .

- ابن زنجویہ کما ذکر السیوطی -

- دیلمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 -

- جامع الاحادیث سیوطی حدیث نمبر 10917 -

- تفسیر درمنثور تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4 -

- تفسیر خازن تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4 - (بغوی)

- تفسیر ثعالبی تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4 -

- تفسیر السراج المنیر تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4 -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک کی زندگیاں ختم

کردی جاتی ہیں یہاں تک کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ نکاح کرے اور اولاد جنم

دے لیکن اس کا نام مردوں میں آچکا ہوتا ہے۔

﴿32﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک مزید روایت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ

سَلَّمَ جَاءَ نِسِي جِبْرِيلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ارْفَعْ رَأْسَكَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا. فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ؟ قَالَ: هَذِهِ
لَيْلَةُ يَفْتَحُ اللَّهُ فِيهَا ثَلَاثَ مِائَةِ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الرَّحْمَةِ.

- كشف الاستار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435-

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348-

- نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: نصف شعبان کی رات میرے پاس
جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم اپنا سر
آسمان دنیا کی طرف اٹھائیں میں نے کہا کہ یہ کیسی رات ہے؟۔ انہوں نے کہا
کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے۔

﴿33﴾

حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ عنہ کی روایت

عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ
لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ فِيهَا الذُّنُوبَ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

- مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 316-

- مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 139-

- مسند البزار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306۔ حدیث نمبر 2754-

- بغیۃ الخارث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116-

- شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 381۔ امام بیہقی نے اسے مرسل جید قرار دیا ہے۔

- جامع الاحادیث (سیوطی) حدیث نمبر 14834۔

- اتحاف الخیرة المھر ة جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24۔

- المطالب العالیہ (عسقلانی) کتاب السحر باب صوم شعبان و شوال۔

- النزول (دارقطنی) باب ذکر روایات عن کثیر بن مرة حدیث نمبر 67+69۔

- مسند الحارث کتاب الصیام باب صیام شعبان حدیث نمبر 338۔

- کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 140۔

- الجامع الصغیر (سیوطی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1215۔

- الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 286۔ (منذری نے کہا امام بیہقی نے اسے مرسل جید کہا ہے)

- سل الہدیٰ والرشاد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 433۔

- صحیح الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 34 (البانی: صحیح لغیرہ)

- ظلال الجنتہ خزنج السنۃ لابن ابی عاصم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264

- صحیح الجامع حدیث نمبر 4268۔ (البانی: صحیح لغیرہ)

- الصحیحۃ (البانی) حدیث نمبر 1144۔

حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شبِ برات کو اپنی مخلوق کی طرف خصوصی طور

پر توجہ فرماتا ہے، سوائے مشرک اور کینہ پرور کے سب کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

نوٹ: حضرت کثیر بن مرہ مرسل روایت کر رہے ہیں۔ لیکن امام بزار نے

(جن کی روایت آگے 35 نمبر پر آرہی ہے) صحابی عوف بن مالک سے کثیر بن

مرہ کی سند سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ لہذا اس سے روایت مرسل ہونے

کا اعتراض بھی اٹھ جاتا ہے۔

﴿34﴾

حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا ایک انداز

عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةَ قَالَ : أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَمْ أُنْسَهُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْفِرُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِكُلِّ عَبْدٍ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاجِنٍ .

۔ فضائل رمضان از ابن ابی الدنیا حدیث نمبر 3۔

حضرت کثیر بن مرہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام کو پایا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ میں کبھی نہیں بھولا اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شبِ برات میں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے سب بندوں کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

﴿35﴾

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَطَّلِعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلَّهُمْ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاجِنٍ .

- مسند الہمز ار حدیث نمبر 2754۔ (مسند خوف بن مالک)

- البحر الزخار شرح مسند الہمز ار حدیث نمبر 2389۔

- مجمع الزوائد (پیشی) جلد 8 صفحہ نمبر 126۔

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شبِ برات کو اپنی مخلوق کی طرف خصوصی طور پر توجہ فرماتا ہے کہ اور سوائے مشرک اور کیندر کھنے والے کے سب کی مغفرت فرمادیتا ہے

﴿36﴾

حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک روایت

عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى

سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ أَخِيهِ.

- مسند الہمز ار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157۔ باب ماروی محمد بن ابی بکر عن ابی بکر۔

- مسند ابی بکر صدیق (مروزی) صفحہ نمبر 171۔

- شعب الایمان (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380۔

- مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 125۔

- جامع الاحادیث (سیوطی) حدیث نمبر 2625۔

- اخبار مکہ فاکی حدیث نمبر 1774۔

- البابۃ الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224۔

- الکامل (ابن عدی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 309۔

- النزول (دارقطنی) حدیث نمبر 62۔

- شرح السنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200 (کتاب الصلاة باب قیام شہر رمضان وفضله)

- البحر الزخار شرح مسند البزار حدیث نمبر 62+114-

- کتاب التوحید (ابن خزیمہ) حدیث نمبر 164-

- الرد علی الجہمیۃ (دارمی) باب النزول لیلۃ النصف من شعبان،

- السنۃ ابن ابی عاصم (تحقیق البانی) حدیث نمبر 509-

- امانی المطلقہ اول الكتاب صفحہ نمبر 122-

- کنز العمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 187-

- میزان الاعتدال (ترجمہ عبدالملک بن عبدالملک) جلد 2 صفحہ نمبر 659-

- تفسیر درمنثور تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4-

- تفسیر بغوی تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4-

- تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 72s- (مطبوعہ: مطبعۃ السعاده مصر)

- ظلال الجنتہ تخریج السنۃ لابن ابی عاصم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262 (البانی: صحیح لغیرہ) الملک الاسلامی بیروت

حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ اپنے چچا اور دادا (حضرت سیدنا ابوبکر

صدیق رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

ارشاد فرمایا جب شب برات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل

فرماتا ہے اور سوائے مشرک اور اپنے بھائی کے لئے کینہ رکھنے والے کے سب کی

مغفرت فرمادیتا ہے۔

﴿37﴾

حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت

حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ اپنے چچا اور دادا (حضرت سیدنا ابوبکر

صدیق رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْعَاقِ وَالْمُشَاحِنِ -

- شعب الایمان (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 381 -

- جامع الاحادیث (سیوطی) حدیث نمبر 27103 -

- رواہ الخزیمہ کما ذکر السیوطی -

کہ اللہ تعالیٰ شبِ برات کو آسمانِ دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور سوائے والدین کے نافرمان اور کینہ رکھنے والے کے سب کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

﴿38﴾

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ
لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ ،
هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ إِلَّا رَانِيَةً
بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكًا .

- مساویٰ الاخلاق (خرائطی) صفحہ نمبر 181 -

- الجاس العشرۃ (حسن خلیل) حدیث نمبر 4 -

- شعب الایمان (بیہقی) جلد 3 صفحہ نمبر 383 -

- فضائل الاوقات (بیہقی) نمبر 25 -

- جامع الاحادیث (سیوطی) حدیث نمبر 2622۔

- جمع الجوامع (سیوطی) حدیث نمبر 2633۔

- کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 140۔

- تفسیر درمنثور سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی شب (شب برات) آتی ہے تو آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ چنانچہ جو کوئی بھی مانگتا ہے ہر ایک کو عطا کر دیا جاتا ہے سوائے اپنی شرم گاہوں سے زنا کرنے والیوں کے اور مشرکوں کے۔

﴿39﴾

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت

أَبِي بَنْ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أتَانِي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ: قُمْ فَصَلِّ وَارْفَعْ رَأْسَكَ وَيَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ؟ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ تَفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَأَبْوَابَ الرَّحْمَةِ ثَلَاثِمِائَةَ بَابٍ فَيُغْفَرُ لِجَمِيعِ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ مُشَاحِنٍ أَوْ مُدْمِنٍ خَمْرٍ أَوْ مُصِرِّ عَلَى الرِّزْنَى. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُغْفَرُ لَهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا. فَأَمَّا مُدْمِنٌ

الْخَمْرِ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ لَهٗ بِأَبَا مِنْ الرَّحْمَةِ مَفْتُوحًا حَتَّىٰ يَتُوبُ فَإِذَا
 تَابَ غُفِرَ لَهُ. وَأَمَّا الْمُسَاحِرُ فَيُتْرَكُ لَهٗ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرَّحْمَةِ
 حَتَّىٰ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فَإِذَا كَلَّمَهُ غُفِرَ لَهُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا جِبْرِيلُ
 فَإِنْ لَمْ يُكَلِّمَهُ حَتَّىٰ يَمُضِيَ عَنْهُ النِّصْفُ. قَالَ: لَوْ مَكَتَ إِلَىٰ أَنْ
 يَتَفَرَّغَ بِهَا فِي صَدْرِهِ فَهُوَ مَفْتُوحٌ فَإِنْ تَابَ قَبْلَ مِنْهُ. فَخَرَجَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَبَيْنَا هُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ
 فِي سُجُودِهِ أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ
 سُخْطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ لَا أَبْلُغُ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا
 أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رُبْعِ اللَّيْلِ
 فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا أَبْوَابُ
 الرَّحْمَةِ مَفْتُوحَةٌ عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مَلَكٌ يُنَادِي طُوبَىٰ لِمَنْ تَعَبَّدَ فِي
 هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَعَلَىٰ الْبَابِ الْأَخْرَمِ مَلَكٌ يُنَادِي طُوبَىٰ لِمَنْ سَجَدَ فِي
 هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَعَلَىٰ الْبَابِ الثَّلَاثِ مَلَكٌ يُنَادِي طُوبَىٰ لِمَنْ رَكَعَ فِي
 هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَعَلَىٰ الْبَابِ الرَّابِعِ مَلَكٌ يُنَادِي طُوبَىٰ لِمَنْ دَعَا رَبَّهُ
 فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَعَلَىٰ الْبَابِ الْخَامِسِ مَلَكٌ يُنَادِي طُوبَىٰ لِمَنْ
 نَاجَى رَبَّهُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَعَلَىٰ الْبَابِ السَّادِسِ مَلَكٌ يُنَادِي
 طُوبَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَعَلَىٰ الْبَابِ السَّابِعِ مَلَكٌ يُنَادِي
 طُوبَىٰ لِلْمُؤَجِّدِينَ وَعَلَىٰ الْبَابِ الثَّامِنِ مَلَكٌ يُنَادِي هَلْ مِنْ تَائِبٍ

يُتَبُّ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَابِ التَّاسِعِ مَلَكٌ يُنَادِي هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ
فَيُغْفِرُ لَهُ وَعَلَى الْبَابِ الْعَاشِرِ مَلَكٌ يُنَادِي هَلْ مِنْ دَاعٍ
فَيُسْتَجَابُ لَهُ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ إِلَى مَتَى
أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ مَفْتُوحَةٌ. قَالَ: مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا عُتَقَاءُ أَكْثَرَ مِنْ شُعُورِ الْغَنَمِ فِيهَا
تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ.

- ابن عساکر جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 72۔

- تزییہ اشریعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126۔

- نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210۔ (راوی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ)

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347۔ (اختصاراً)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام شبِ برات میں آئے۔ اور مجھے کہا کہ اٹھ کر نفل ادا فرمائیے۔ آپ اپنا سر اور دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کیسی رات ہے؟۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیک وسلم اس رات میں آسمان کے اور رحمت کے تین سو دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کے، کینہ پرور، شراب بنانے والے کے اور عادی زانی کے علاوہ سب کی مغفرت کر

دی جاتی ہے۔ از لوگوں کی تب تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ جہاں تک شرابی کی بات ہے اس کے لئے جنت کا دروازہ کھلا رہے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے پس جب وہ توبہ کر لے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جہاں تک کینہ پرور کی بات ہے اس کے لئے بھی رحمت کا ایک دروازہ چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی (جس کے متعلق کینہ رکھتا ہے) سے درست کلام نہ کر لے۔ پس جب وہ اس سے درست کلام کر لے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے جبریل اگر وہ اپنے ساتھی سے رکا رہے یہاں تک کہ شبِ برات گزر جائے تو؟۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر اس کی زندگی بھی گزر جائے اور اس کی موت کا وقت بھی آجائے اور سانس سینے تک بھی پہنچ جائے اس سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لے تو اس وقت بھی اس کے لئے دروازہ کھلا ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدہ میں جا کر یہ دعا پڑھنے لگے: **أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ لَا أَبْلُغُ الثَّنَاءُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ**۔ پس جبریل علیہ السلام رات کے چوتھے پہر میں نازل ہوئے اور عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو رحمت کے دروازوں کو کھلا ہوا پایا اور ہر دروازہ پر فرشتہ پایا جو کہ کہہ رہا ہے مبارکباد ہے اس کے لئے جو اس رات عبادت کرے

گا۔ دوسرے دروازے پر فرشتہ نداء دے رہا تھا مبارکباد ہے اس کے لئے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر فرشتہ نداء دے رہا تھا مبارکباد ہے اس کے لئے جس نے اس رات میں رکوع کیا۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ نداء دے رہا تھا مبارکباد ہے اس کے لئے جس نے اس رات میں اپنے رب سے دعا کی۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ نداء دے رہا تھا مبارکباد ہے اس کے لئے جو اس رات میں اپنے رب کے آگے گڑگڑایا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ نداء دے رہا تھا مبارکباد ہے اس کے لئے جس نے اس رات میں سر جھکایا۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ نداء دے رہا تھا مبارکباد ہے اس کے لئے جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ نداء دے رہا تھا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر فرشتہ نداء دے رہا تھا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ دسویں دروازے پر فرشتہ نداء دے رہا تھا کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل یہ رحمت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ رات کی ابتداء سے فجر تک۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں بکریوں کے بانوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اس رات میں لوگوں کے اعمال بلند کئے جاتے ہیں اور اس رات میں رزق تقسیم کئے جاتے ہیں

﴿40﴾

عیدین اور شب برات کی شب بیداری

عَنْ ابْنِ كَرْدَوَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْيَى لَيْلَتِي الْعِيدِ، وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.

- مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 314۔

- اتحاف السادة المتقين جلد 3 صفحہ نمبر 410۔

- کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 251۔

- مراقی الفلاح شرح نور الایضاح جلد نمبر 1 صفحہ 174۔

- التبصرة (ابن جوزی) المجلس الخامس فی ذکر اللیلة النصف من شعبان۔

- نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عید الفطر اور عید الاضحیٰ

کی دو راتیں اور پندرہ شعبان کی رات جاگے گا جس دن سب لوگوں کے دل مر

جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا۔

﴿41﴾

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي الْأَقْصِيَّةَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيُسَلِّمُهَا إِلَىٰ أَرْبَابِهَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- تفسیر معالم التنزیل (بغوی) جلد 6 صفحہ نمبر 120۔

- تفسیر خازن تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر روح المعانی پارہ 25 صفحہ نمبر 156۔

- تفسیر اللباب ابن عادل تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر السراج المنیر تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- التذکرۃ (قرطبی) صفحہ نمبر 71۔

- المبدع شرح المقنع از ابن اسحاق المقلح المقدسی کتاب الصیام باب صوم التطوع۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نصف

شعبان کی شب تمام فیصلے فرماتا ہے اور متعلقہ فرشتوں کو شب قدر میں عطا فرماتا ہے

﴿42﴾

مردوں اور حاجیوں کے نام

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُبَيِّنُ فِيهَا

أَسْمَاءَ الْمَوْتَى وَيُنْسَخُ فِيهَا الْحَاجُّ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ۔

- الامالی الشجر یہ باب فضل لیلۃ النصف من شعبان و فضل صومہ و ما یتصل بذلک۔

- میزان الاعتدال (ذہبی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 255۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا

کہ نصف شعبان کی شب میں مردوں کے نام واضح کر دیئے جاتے ہیں۔ اور اس

میں زندگیاں منسوخ کی جاتی ہیں۔ اس میں نہ کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی

اضافہ کیا جائے گا۔

﴿43﴾

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کی روایت

عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُبْرَمُ فِيهِ أَمْرُ
السَّنَةِ وَتُنْسَخُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَيُكْتَبُ الْحَاجُّ فَلَا يَزِيدُ فِيهِمْ
أَحَدٌ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ۔

- تفسیر ابن جریر تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر ابن ابی حاتم تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر قرطبی تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر معالم التنزیل جلد 4 صفحہ نمبر 173۔

- تفسیر الکشف والبیان جلد 8 صفحہ نمبر 349۔

- تفسیر درمنثور تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر خازن تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر روح المعانی تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346۔

- التبصرۃ (ابن جوزی) المجلس الخامس فی ذکر الملیۃ النصف من شعبان۔

حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی شب میں

ایک سال کے معاملات پختہ کئے جاتے ہیں مرنے والوں کی زندگیاں منسوخ کی

جاتی ہیں، اور حج کرنے والوں کے نام لکھ دیئے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی کمی ہوگئی

نہ اضافہ ہوگا۔

نوٹ: حضرت عکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام تھے

﴿44﴾

شب برات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے

عَنْ عِكْرَمَةَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفْصِلُ ذَلِكَ لِلْمَلَائِكَةِ فِي لَيْلَةِ
النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

- تفسیر ثعالبی تحت سورة الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر المحرر الوجیز تحت سورة الدخان آیت نمبر 4۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے
لئے ان امور کے فیصلے شب برات میں فرمادیتا ہے

﴿45﴾

صحابہ کرام کی کفار کے لئے بددعا بھی شب برات میں

وَكَذَلِكَ مِنَ الْمَوَاضِعِ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ دُعَاءِ الْقُنُوتِ
فِي صَلَاةِ الْوَتْرِ أَوْ غَيْرِهِ إِذَا قَنَّتِ الْإِنْسَانُ، لَمَّا جَاءَ فِي حَدِيثِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ يَلْعَنُونَ
الْكَفَرَةَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ. ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

- موسوعۃ الدفاع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب حب النبی ﷺ کہولا۔

اس طرح ان (دعاؤں کے) مواقع میں سے ایک موقع نماز وتر کی
دعاے قنوت کے آخر میں یا اس کے علاوہ جب بھی انسان قنوت پڑھے جو کہ

حضرت عبدالرحمن بن عبدالقاری کی روایت میں آیا ہے انہوں نے فرمایا کہ بیشک ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ شب برات میں کفار پر لعنت (بددعا) کیا کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر حد یہ درود شریف بھیجا کرتے تھے۔

﴿46﴾

شب برات کے چار نام

قَالَ عِكْرَمَةُ وَجَمَاعَةٌ هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَتُسَمَّى
لَيْلَةَ الرَّحْمَنِ وَلَيْلَةَ الْمُبَارَكَةِ وَلَيْلَةَ الصَّكِّ وَلَيْلَةَ الْبَرَاءَةِ.
- تفسیر قرطبی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 109 -

- تفسیر کبیر (فخر الدین رازی) سورۃ الدخان تحت آیت نمبر 4 -

- تفسیر السراج المنیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 182 -

- تفسیر روح البیان تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4 -

- تفسیر اللباب ابن عادل تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4 -

- تفسیر روح المعانی تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4 -

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اور محدثین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ نصف شعبان کی شب کا نام لیلۃ الرحمن، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الصک اور لیلۃ البرأت ہے۔

﴿47﴾

شب برات کے نام اور شب برات کی شناخت

وَلَهَا أَرْبَعَةٌ أَسْمَاءٌ: اللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ وَلَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ وَلَيْلَةُ

الصَّكِّ وَلَيْلَةُ الرَّحْمَةِ وَمِنْ عَادَةِ اللَّهِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا
مَاءً زَمْزَمَ زِيَادَةً ظَاهِرَةً.

- تفسیر کشاف (زمخشری) تحت سورة الدخان آیت نمبر 4۔

- فیض القدر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263۔

علامہ زمخشری نے واضح کرتے ہوئے بیان کیا کہ شب برات کے چار
نام ہیں لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراءۃ، لیلۃ الصک، لیلۃ الرحمۃ۔ اللہ تعالیٰ کی عادت
قدرت میں سے ہے کہ شب برات میں آب زمزم بہت بڑھ جاتا ہے۔

﴿48﴾

وضین بن عطاء رضی اللہ عنہ سے روایت

الْوَضِیْنُ بْنُ عَطَاءٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ أَلَّ اللَّهُ
يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ لِأَهْلِ الْأَرْضِ
الْإِمْشَرِكِ أَوْ مُشَاجِنِ وَلَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عُتْقَةٌ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ
كَلْبٍ. قَالَ إِسْحَاقُ: فَسَّرَهُ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ أَلَّ الْمُشَاجِنُ الْمُبْتَدِعَ الَّذِي
يُفَارِقُ أُمَّةً.

- مسند اسحاق بن راہویہ حدیث نمبر 850۔ مکتبۃ الایمان المدینۃ المنورۃ۔

حضرت وضین بن عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی شب اللہ تعالیٰ تمام زمین والوں کی
مغفرت فرمادیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ اور اس رات میں قبیلہ بنی

کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زائد لوگوں کو جنت میں داخل فرمادیتا ہے۔ اسحاق نے کہا کہ امام اوزاعی نے ”مشاحن“ کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد وہ بدعتی ہے جو امت میں تفرقہ پیدا کرے۔

﴿49﴾

شب قدر کے بعد افضل ترین رات شب برات

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَسَخَ الْمَلِكُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَظْلَمُ وَيَفْجُرُ وَيَنْكِحَ النِّسْوَانَ وَقَدْ نَسِخَ اسْمُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ وَمَا مِنْ لَيْلَةٍ بَعْدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَأَفْضَلُ مِنْهَا يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِكُلِّ أَحَدٍ إِلَّا مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ أَوْ قَاطِعِ رَحْمٍ.

- جامع الاحادیث نمبر 44314۔

- کنز العمال جلد نمبر 14 حدیث نمبر 38291۔

- الترغیب ابن شاہین کما ذکر علی الہمتی۔

- تفسیر درمنثور سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔ (تقارب)۔

- لطائف المعارف صفحہ نمبر 162۔

حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نصف شعبان کی شب (شب برات) ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زندگیوں کو ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک منسوخ کرتا ہے۔ اور بے شک ایک انسان ظلم و زیادتی کرتا ہے اور

عورتوں سے نکاح کرتا ہے اور حقیقتاً اس کا نام زندوں سے منسوخ کر کے مردوں میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بعد اس رات سے افضل کوئی بھی رات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا میں رحمت نازل فرماتا ہے اور سوائے مشرک، کینہ پرور اور قطع رحمی کرنے والے کے، ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے۔

نوٹ: حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت یسار رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔

﴿50﴾

انسان کی قسمت کے فیصلے اور اس کی بے خبری و بے حسی

قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ إِذَا كَانَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ دُفِعَ
مَلِكُ الْمَوْتِ صَحِيفَةً فَيُقَالُ: أَقْبِضْ هَذِهِ السَّنَةَ مَنْ فِي هَذِهِ
الصَّحِيفَةِ. فَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُغْرِسَ الْغُرَّاسَ وَيَنْكِحُ الْأَزْوَاجَ وَيُبْنِي
الْبُنْيَانَ وَإِنَّ إِسْمَهُ فِي تِلْكَ الصَّحِيفَةِ وَهُوَ لَا يَدْرِي.

- احیاء العلوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 468۔

- ابن ابی الدنیا کما ذکر السیوطی۔

- تفسیر درمنثور سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- الحبانک فی اخبار الملائک (سیوطی) باب ماجاء فی ملک الموت۔

حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی شب آتی ہے تو ملک الموت کو ایک رجسٹر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا

ہے کہ اس میں جن کے نام درج ہیں اس سال ان کی روحوں کو قبض کر لینا۔ ایک انسان بستر پر لیٹا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے اور گھر بناتا ہے اور اس کا نام اس صحیفہ میں درج ہوتا ہے جب کہ وہ اس سے قطعاً بے خبر ہوتا۔

﴿51﴾

انسان کی زندگی کا سفر یا آخرت کا سفر

قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: يُعْرَضُ عَمَلُ السَّنَةِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مُسَافِرًا وَقَدْ نُسِخَ اسْمُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ، وَيَتَدَوَّجُ وَقَدْ نُسِخَ مِنَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ.

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347۔

حضرت عطاء بن یسار نے کہا کہ نصف شعبان کی شب تمام سال کے عمل پیش ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک آدمی سفر کے لئے نکلتا ہے لیکن اس کو زندوں سے مردوں کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے، ایک آدمی شادی کرتا ہے لیکن اس کو زندوں سے مردوں کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے۔

﴿52﴾

حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت

مذکورہ روایت امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ

سے نقل کی ہے:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: تَنْسَخُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
الْأَجَالَ، حَتَّى أَنْ الرَّجُلَ لِيَخْرُجَ مُسَافِرًا وَقَدْ نُسِخَ مِنَ الْأَحْيَاءِ
إِلَى الْأَمْوَاتِ، وَيَتَدَوَّجَ وَقَدْ نُسِخَ مِنَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ.

- مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 -

حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نصف شعبان
میں لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک آدمی سفر کے لئے نکلتا
ہے لیکن اس کو زندوں سے مردوں کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے، ایک آدمی
شادی کرتا ہے لیکن اس کو زندوں سے مردوں کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے۔

﴿53﴾

حضرت عطاء خراسانی رضی اللہ عنہ کی روایت

عَنْ عَطَاءِ الْخَرَّاسَانِيِّ قَالَ: خَمْسُ لَيَالٍ مِّنْ أَقَامَهُنَّ: أَوَّلُ
لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ يَقُومُهَا وَيُصْبِحُ صَائِمًا وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
يَقُومُهَا وَيُصْبِحُ صَائِمًا وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ يَقُومُهَا وَيُصْبِحُ مُفْطِرًا وَلَيْلَةُ
الْأَضْحَى وَيُصْبِحُ مُفْطِرًا وَلَيْلَةُ عَاشُورَاءَ يَقُومُهَا وَيُصْبِحُ صَائِمًا
كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ.

- الامالی الشجرية باب ذکر عاشوراء و صومہ و ذکر فضلہ و بلہ و صلہ -

حضرت عطاء خراسانی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے ان پانچ
راتوں میں عبادت کی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس

کے لئے شہید کا اجر درج فرمادے گا۔ وہ پانچ راتیں یہ ہیں ماہِ رجب کی پہلی رات میں صبح تک عبادت کرے، اور دن روزہ داری کی حالت میں بسر کرے، نصف شعبان المعظم کی رات عبادت کرے اور اور دن روزہ کی حالت میں بسر کرے، عید الفطر کی رات عبادت کرے اور دن افطاری کی حالت میں گزارے، عید الاضحیٰ کی رات عبادت کرے اور دن بغیر روزہ کے بسر کرے، شبِ عاشورہ (دس محرم کی رات) عبادت کرے اور دن روزہ کی حالت میں گزارے۔

﴿54﴾

حضرت حکیم بن کیسان رضی اللہ عنہ کی روایت

قَالَ حَكِيمُ بْنُ كَيْسَانَ: يَطَّلِعُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَمَنْ طَهَّرَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ زَكَاةً إِلَى مِثْلِهِ -

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347۔

- التہصرۃ (ابن جوزی) المجلس الخامس فی ذکر اللیلۃ النصف من شعبان۔

حضرت حکیم بن کیسان نے کہا کہ نصف شعبان کی شب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہوتا ہے جو کوئی اس رات میں پاکیزگی حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو بھی اسی کی مثل پاک فرمادیتا ہے۔

﴿55﴾

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت

مَكْحُولٌ عَنْ كَعْبٍ أَنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ آجَالَ الْمَوْتِ فَيَمَحُوْ اُنَاسًا مِنْ دِيْوَانِ الْاَحْيَاءِ وَيُثَبِّتُهُمْ فِي دِيْوَانِ الْاَمْوَاتِ۔

- تفسیر روح المعانی تحت سورۃ الرعد آیت نمبر 39۔

حضرت سیدنا مکحول رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شبِ برات میں اللہ تعالیٰ مردوں کی موتوں کے وقت کی طرف توجہ فرماتا ہے تو ان کے نام زندوں کی فہرستوں سے مٹا دیتا ہے اور انہیں مردوں کے رجسٹروں میں مضبوط فرما دیتا ہے۔

﴿56﴾

حضرت مکحول رضی اللہ عنہ کی روایت

عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ يَطَّلِعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَتُوبُ عَلَى النَّائِبِينَ وَيَدْعُ أَهْلَ الْحَقْدِ بِحَقْدِهِمْ فَيَغْفِرُ اِلِلْمُشْرِكِ اَوْ مُشَاجِنِ۔

- اعتقاد اہل السنۃ (ہبۃ اللہ بن الحسن بن منصور اللاکائی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 452۔

حضرت سیدنا مکحول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کی شب یعنی شبِ برات میں اپنی مخلوق پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور

مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور کینہ پروروں کو ان کی کینہ پروری کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ اور مشرک اور چغل خور کے سوا سب کی مغفرت فرمادیتا ہے۔

﴿57﴾

شب برات میں حضرت جبریل علیہ السلام کی جنت میں آمد

عَنْ كُفِّ الْأَخْبَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَفْرَحُونَ بِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْخُورِ وَالْخَرَنَةِ وَالْوِلْدَانِ كَمَا يَفْرَحُ أَهْلُ النَّارِ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ إِذَا سَكَنُوهَا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْعَثُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْجِنَانُ أَنَا جِبْرِيلُ الْأَمِينُ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَزِينِي وَتَجَدِّدِي وَازْدَادِي نُورًا وَتَلَائِي وَافْتَحِي أَبْوَابَ مَقاصِيرِكَ الْمَرْجَانِيَّةِ وَحَجَابَ لِكَ الْعَبْقَرِيَّةِ الَّتِي بَطَّائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَحَشْوُهَا أَذْفَرِيَّاتِ الْمِسْكِ وَأَخْرِجِي مُتَضَمِّنَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَعْتَقَ فِي لَيْلَتِكَ هَذِهِ عَدَدَ نَجُومِ السَّمَاءِ وَعَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَلِيَالِيهَا وَعَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ وَرَنَةَ الْجِبَالِ وَعَدَدَ الرِّمَالِ. يَامُضِيْعًا الْيَوْمِ تَضِيْعًا أَمْسَ تَيَقُّظُ

وَيُحَكِّكَ فَقَدْ قَتَلْتَ النَّفْسَ وَتُبَّهَ لِلسَّعُودِ فَإِلَى كَمْ تَحِسُّ وَاحْفَظْ
بَقِيَّةَ العُمُرِ فَقَدْ بَعَثَ المَاضِيَ بِالبَخْسِ۔

۔ التبصرة (ابن جوزی) المجلس الخامس في ذكر الليلة النصف من شعبان - 54/2

حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایا یہ ہے کہ بے شک اہل جنت جیسا کہ حورانِ بہشتی، دار و عیانِ جنت اور غلمان و غیرہ ماہِ رمضان المبارک کی آمد پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دوزخ کسی جہنمی انسان کے جنت میں جانے پر خوش ہوتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شبِ برات میں حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت میں بھیجتا ہے اور وہ جا کر ان کو سلام کہتے ہیں اور ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ اے جنتو! مزید بن سنور جاؤ اپنے چمکتے دکتے نور کو مزید جلا بخش لو، زرو جوہرات سے تیار کردہ محلات کے دروازے کھول دو، اور وہ منقش بستر بھی کھول دو جن کے آستر دبیز ریشم کے تیار کئے ہوئے ہیں اور جن میں سے کستوری کی خوشبوؤں کے خُلقے اٹھ رہے ہیں۔ اور ظاہر کرو مخلوقات کے لئے ان حورانِ بہشتی کو کہ ان سے پہلے کسی بھی انسان اور جن نے ان کو چھوا تک نہیں۔

(تو اے غافل انسان) اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں (شب برات) آسمان کے ستاروں، دنیا کی تمام عمر (قیامت تک) کے دنوں اور راتوں کے برابر، درختوں کے پتوں اور پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذرات کے برابر لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ (اے غافل انسان) اے وقت برباد کرنے والے تم

نے اپنا گذرا ہوکل برباد کر دیا اب تو بیدار ہو جا تم نے اپنی جان کو تباہ کر دیا اب تو اسے خوش بخت بنانے کے لئے توبہ کر لے۔ کب تو اپنا نقصان محسوس کرے گا؟ تو اپنا ماضی انتہائی گھٹیا قیمت میں بیچ چکا ہے اب تو اپنی باقی زندگی کی حفاظت کر لے۔

﴿58﴾

شب برات میں جنت کی تزئین و آرائش

قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَبْعَثُ اللَّهُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَأْمُرُ أَنْ تَتَزَيَّنَ وَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْتَقَ فِي لَيْلَةِ هَذِهِ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ وَعَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَلَيَالِيهَا.

- التبرہة از ابن جوزی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54۔

- نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212۔

حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شبِ برات میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتا ہے، چنانچہ وہ اسے سجنے کا حکم دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان کے ستاروں اور زمین کے دن اور راتوں کی تعداد کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔

﴿59﴾

شب برات اور آب زمزم کی مٹھاس

إِنَّهُ يَحْلُو لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيَطِيبُ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ
 الْحَجَّاجِ فِي مَنْاسِكِهِ نَقْلًا عَنْ مَكِّي بْنِ أَبِي طَالِبٍ (مُتَوَفَى
 ٤٣٧ هـ) وَنَصَّ كَلَامُهُ قَالَ الشَّيْخُ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
 تَعَالَى: وَفِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَحْلُو مَاءٌ رَمَزَمٌ وَيَطِيبُ
 مَآوُهَا يَقُولُ أَهْلُ مَكَّةَ: إِنْ عَيْنٌ سُلُوَانٌ تَتَّصِلُ بِهَا تِلْكَ
 اللَّيْلَةَ، وَيَبْذُلُ عَلَى أَخْذِ الْمَاءِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ الْأَمْوَالَ وَيَقَعُ
 الرِّحَامُ فَلَا يَصِلُ إِلَى الْمَاءِ إِلَّا ذُو جَاهٍ وَشَرَفٍ. قَالَ: وَعَانَيْتُ ذَلِكَ
 ثَلَاثَ سِنِينَ.

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں

وَمِنْهَا أَنَّهُ يَكْثُرُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كُلِّ سَنَةٍ
 بِحَيْثُ أَنَّ الْبَيْتَ تَفِيضُ بِالْمَاءِ عَلَى مَا قِيلَ لَا يُشَاهِدُونَ ذَلِكَ إِلَّا
 الْعَارِفُونَ.

- سبل الہدیٰ والرشاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 -

شب برات میں زمزم کا پانی بہت ہی میٹھا اور خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اور
 اس بات کا تذکرہ ابن الحاج مالکی نے اپنی کتاب مناسک حج میں بھی شیخ مکئی بن
 ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ متوفی 437ھ سے نقل کرتے ہوئے کیا ہے۔ شیخ مکئی بن

ابی خالب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے الفاظ یہ ہیں: شیخ مکئی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: نصف شعبان کی شب (شبِ برات) میں زمزم کا پانی بٹنھا اور خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اہل مکہ کہتے ہیں کہ بے شک شبِ برات میں پانی کا چشمہ اپنے مکمل جو بن پر ہوتا ہے اور اہل مکہ شبِ برات میں پانی حاصل کرنے کے لئے مال خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے باوجود اتنا رش ہو جاتا ہے کہ پانی تک صرف اور صرف جاہ و حشمت والے لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں وہاں تین برس تک رہا ہوں۔

مزید آگے چل کر لکھتے ہیں کہ شبِ برات کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہر سال شبِ برات میں زمزم کے کنویں میں پانی بڑھ جاتا ہے اور فیض کی صورت اختیار کرتا ہے لیکن اس بات کا مشاہدہ صرف عارفین کو ہی ہو پاتا ہے۔

﴿60﴾

شبِ برات اور آبِ زمزم کی مٹھاس کی مزید روایت

ابوالقواء بھاء الدین ابن ضیاء مکئی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 854ھ نے آب

زمزم کی کیفیات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ:

إِنَّهُ يَحْلُوُ أَبْلَةً النَّيِّفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيَطِيبُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ

ابْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ فِي مَنَاسِكِهِ۔

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں

وَمِنْهَا أَنَّهُ يَكْثُرُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فِي كُلِّ سَنَةٍ
بِحَيْثُ إِنَّ الْبَيْتَ يَغْصُ بِالْمَاءِ عَلَى مَا قِيلَ لَكِنْ لَا يُشَاهِدُونَ هَذَا
إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ -

- تاریخ مکہ المشرقة والمسجد الحرام باب ذکر فضل زمزم و خواصھا -

مزید آگے چل کر لکھتے ہیں کہ شب برات میں زمزم کا پانی بہت ہی میٹھا
اور خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کا تذکرہ ابن الحاج مالکی نے اپنی کتاب
مناسک حج میں بھی کیا ہے۔

آب زمزم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ پانی ہر سال شب برات میں بہت
زیادہ ہو جاتا ہے اس طرح کہ تمام کنواں پانی سے بھر پور ہو جاتا ہے لیکن اس کا
حقیقی مشاہدہ صرف اور صرف اولیائے کرام کو ہی ہوتا ہے۔

﴿61﴾

آب زمزم میں فراوانی شیخ اسماعیل حقی کی روایت

وَالسَّادِسَةُ: إِنَّ مِنْ عَادَةِ اللَّهِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَنْ يَزِيدَ مَاءَ
زَمْزَمَ زِيَادَةً ظَاهِرَةً وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى حُصُولِ مَزِيدِ الْعُلُومِ الْإِلَهِيَّةِ
لِقُلُوبِ أَهْلِ الْحَقَائِقِ -

- تفسیر روح البیان تحت سورة الدخان آیت نمبر 4 -

شب برات کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ
علیہ چھٹی خصوصیت لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے

کہ وہ شب برات میں زمزم شریف کا پانی کھلم کھلا بڑھا دیتا ہے۔ اور اس میں محققین کے قلوب کے لئے عرفانِ خداوندی کے مزید علوم حاصل کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔

﴿62﴾

حضرت کعب کی ایک روایت

عَنْ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَطَّلِعُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ جَمِيعاً إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ۔
- کتاب النزول (دار قطنی) صفحہ نمبر 168۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرمادیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔

﴿63﴾

حضرت عتبہ بن حکیم رضی اللہ عنہ کی روایت

حضرت عتبہ بن حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ :

حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَطَّلِعُ فِي كُلِّ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَهُ إِلَّا مُشْرِكًا وَمُشَاحِنًا۔

- کتاب النزول (دار قطنی) صفحہ نمبر 168۔

حضرت عتبہ بن حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مکحول رضی اللہ عنہ مجھے بیان فرمایا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہر نصف شعبان (ہر شب برات) میں نزول فرماتی ہے اور وہ اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرمادیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔

﴿64﴾

ابن احنس رضی اللہ عنہ سے روایت

عَنْ عَثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيرَةَ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ تَقَطَّعُ الْأَجَالَ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ - قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكَحَ وَيُولَدُ لَهُ وَقَدْ خَرَجَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى -

- شعب الایمان (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386۔

- دیلمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73۔

- جامع الاحادیث (سیوطی) حدیث نمبر 10917۔

- تفسیر ابن جریر تحت سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر بغوی جلد 6 صفحہ نمبر 120۔

- تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 149۔

- تفسیر روح المعانی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 113۔

عثمان بن مغیرہ بن احنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک کئی زندگیاں منقطع کر دی جاتی ہیں حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے جبکہ اس کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔

﴿65﴾

راشد بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت

رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ
مِنْ شَعْبَانَ يُوحَى اللَّهُ إِلَى مَلِكِ الْمَوْتِ يَقْبِضُ كُلَّ نَفْسٍ يُرِيدُ
قَبْضَهَا فِي تِلْكَ السَّنَةِ.

- المجالسة وجواهر العلم (دینوری) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 944+206۔

- الجامع الصغیر (امام سیوطی) جلد 3 صفحہ نمبر 1216۔

- کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 140۔

- تفسیر درمنشور تحت سورة الدخان 4۔

- البحائک فی اخبار الملائک (سیوطی) باب ما جاء فی ملک الموت۔

- تفسیر روح المعانی پارہ نمبر 25 صفحہ نمبر 156۔

- المقدمة البانی صفحہ نمبر 31۔

- الجامع الصغیر و زیادته (البانی) حدیث نمبر 8450۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پندرہ شعبان کو اللہ تعالیٰ

ملک الموت کو وحی میں نام عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر اس جان کو قبض کرنے کا حکم دیتا

ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس سال میں مارنا چاہتا ہے۔

﴿66﴾

تمام امور کی فرشتوں کو منتقلی امام بیہقی کی وضاحت

فَأَمَّا سَائِرُ الْأُمُورِ الَّتِي تَجْرِي عَلَى يَدَيِ الْمَلَائِكَةِ مِنْ

تَذِيرِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا تَبَيَّنَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ-

- شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319-

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ واضح فرماتے ہیں کہ جہاں تک تمام معاملات کا تعلق ہے جو کہ فرشتوں کے ہاتھوں پہ زمین والوں کی تدبیر میں سے جاری ہوتے ہیں۔ تو وہ شبِ برات میں واضح کر دیئے جاتے ہیں۔

﴿67﴾

شبِ برات اور زندگی کی تیسخ

هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُبْرَمُ فِيهَا أَمْرُ السَّنَةِ وَيُنْسَخُ
الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ-

- تفسیر خازن سورۃ الدخان آیت نمبر 4-

مفسر قرآن علامہ خازن علی بن محمد بن ابراہیم بن عمر الشیخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رات شبِ برات ہے جس میں سال کے فیصلے کئے جاتے ہیں اور زندوں کو منسوخ کر کے مردوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔

﴿68﴾

راتیں بھی تو ایسی ہیں دن بھی تو ایسے ہیں

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْبَعُ
لَيَالِيَهُنَّ كَأَيَّامِهِنَّ وَأَيَّامُهُنَّ كَلَيَالِيَهُنَّ يَبْرُ اللَّهُ فِيهِنَّ الْقَسَمَ وَيُعْتِقُ
فِيهِنَّ النَّسَمَ وَيُعْطِي الْجَزِيلَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَصَبَاحُهَا وَلَيْلَةُ عَرَفَةَ

وَصَبَّاحُهَا وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَصَبَّاحُهَا وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ
وَصَبَّاحُهَا.

- دیلمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 374 -

- جامع الاحادیث حدیث نمبر 3080 -

- کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 144 -

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار راتیں ایسی ہیں کہ وہ اپنے دنوں کی طرح ہیں اور ان کے
دن ان کی راتوں کی طرح ہیں (یعنی فضیلت میں ایک جیسے)۔ اللہ تعالیٰ ان اوقات
میں اپنے بندوں میں خصوصی فضل و کرم تقسیم فرماتا ہے، جہنم سے آزادی بانٹتا ہے اور
بے بہا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور وہ دن اور راتیں یہ ہیں: شبِ قدر اور اس کا دن، شبِ
عرفہ اور اس کا دن، شبِ برات اور اس کا دن، شبِ جمعہ اور اس کا دن۔

﴿69﴾

حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کی روایت

عَنْ مَعْبِدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعُ لَيَالٍ
يُفْرَغُ اللَّهُ تَعَالَى الرَّحْمَةَ عَلَى عِبَادِهِ إِفْرَاقًا: أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ
رَجَبٍ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى.

- الامالی الشجرية باب صوم رجب وفضله وما يحصل بذلك -

حضرت سیدنا معبد رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے

روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت فرماتا ہے: ماہِ رَجَبِ کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات یعنی شبِ برات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ نوٹ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ جب بھی یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ درمیان میں راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔

﴿70﴾

شبِ برات اور تقدیر کے فیصلے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُقَدِّرُ الْمَقَادِيرَ فِي لَيْلَةِ الْبَرَاءَةِ فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ سَلَّمَ إِلَىٰ أَرْبَابِهَا.

- تفسیر کبیر (رازی) سورۃ القدر آیت نمبر 4۔

- نظم الدرر للبقاعی سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شبِ برات میں تقدیروں کے فیصلے فرماتا ہے۔ اور شبِ قدر میں متعلقہ فرشتوں کے سپرد فرمادیتا ہے۔

﴿71﴾

فرشتوں کی آسمانوں پر دو عیدیں: شبِ برات اور شبِ قدر

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ فِي السَّمَاءِ لَيَلْتَنُ عِيدِ كَمَا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي

الْأَرْضِ يَوْمَ عِيدِ الْمَلَائِكَةِ لَيْلَةَ الْبَرَاءَةِ وَهِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ
مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ وَعِيدُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمُ
الْأَضْحَى فَلِذَا سُمِّيَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَيْلَةَ عِيدِ الْمَلَائِكَةِ.

- مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 314 -

- غدیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 -

بیشک ملائکہ کی آسمانوں میں عید کی دوراتیں ہیں جیسے مسلمانوں کے لئے
زمین میں عید کے دو دن ہیں۔ بے شک ملائکہ کرام کی عید کی دوراتیں لیلۃ البراءۃ
جو کہ نصف شعبان کی شب ہوتی ہے اور لیلۃ القدر ہے۔ جب کہ مومنوں کی دو
عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ اسی لئے نصف شعبان کی شب یعنی شبِ
برات کو ملائکہ کرام کی عید کا نام دیا گیا ہے۔

﴿72﴾

یہ تمام راتیں افضل ہیں مگر شبِ میلاد کے بعد

عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ أَفْضَلُ اللَّيَالِي لَيْلَةُ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ثُمَّ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ ثُمَّ لَيْلَةُ
عَرَفَةَ ثُمَّ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ثُمَّ لَيْلَةُ الْعِيدِ.

- تفسیر روح المعانی تحت سورۃ القدر آیت نمبر 3 -

- رد المحتار از علامہ ابن عابدین شامی کتاب الحج باب فصل فی الاحرام وحقۃ المفرد -

- حواشی الشروانی از عبد الحمید الشروانی و احمد بن قاسم عبادی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 462 -

- فقہ العبادات الشافعی کتاب الصوم باب ما یستحب فی الصیام -

کئی شواہح آئمہ نے بیان فرمایا ہے کہ سال کی تمام راتوں میں سے افضل ترین رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ والی رات ہے۔ پھر شب قدر، پھر شب معراج، پھر شب جمعہ پھر شب برات اور پھر شب عید۔

نوٹ: اس روایت سے کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ شب برات کا درجہ تو بہت کم ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ہم نے تمام بحث میں یہ ثابت کیا ہے کہ سال کی تمام فضیلت والی راتوں میں شب برات بھی شامل ہے لہذا اس روایت سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے۔ اور بہر حال شب میلاد کی عظمت تو اظہر من الشمس ہے۔

﴿73﴾

شہداء کی ارواح کی شب برات میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الشُّهَدَاءَ أَحْيَاءَ لَا يَمُوتُونَ. وَإِنَّمَا هِيَ نَقْلَةٌ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ بِأَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لِتَرُورَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَأَنَّكَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

- فتوح الشام (واقدی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101۔

علامہ واقدی (متولد 130 ھ) (جو کہ مشہور محدث محمد بن سعد کے استاد

تھے) نے کہا: کیا تو نہیں جانتا کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں اور وہ بے شک ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ

اس رات میں شہداء کی ارواح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لئے بھیجتا ہے اور یہ رات نصف شعبان کی رات ہوتی ہے۔

﴿74﴾

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور شبِ برات

مَرَّ عَيْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ جَبَلٍ فَرَأَىٰ فِيهِ صَخْرَةً
بَيْضَاءَ فَطَافَ بِهَا عَيْسَىٰ وَتَعَجَّبَ مِنْهَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ أَتُرِيدُ أَنْ
أَبِينَ لَكَ أَعْجَبَ مِمَّا رَأَيْتَ؟ قَالَ نَعَمْ. فَانْفَلَقَتِ الصَّخْرَةُ عَنْ
رَجُلٍ بِيَدِهِ عُكَّازَةٌ خَضْرَاءُ وَعِنْدَهُ شَجَرَةٌ عِنَبٍ. فَقَالَ: هَذَا
رِزْقِي كُلِّ يَوْمٍ. فَقَالَ: كَمْ تَعْبُدُ اللَّهَ فِي هَذَا الْحَجَرِ؟ فَقَالَ:
مُنْذَارُبَعَةِ مِائَةٍ سَنَةٍ فَقَالَ عَيْسَى: يَا رَبِّ مَا أَظْنُكَ خَلَقْتَ خَلْقًا
أَفْضَلَ مِنْهُ. فَقَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِنْ أُمَّةٍ
مُحَمَّدٍ ^{صَلَّى اللَّهُ} عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِ مِائَةٍ عَامٍ. قَالَ
عَيْسَى: لَيْتَنِي مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ^{صَلَّى اللَّهُ} عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

- نزہتہ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 -

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گذرے اس پر انہیں ایک سفید گنبد نظر آیا۔ انہوں نے اسے ہر طرف سے گھوم کر دیکھا اور بہت ہی متعجب ہوئے۔ پس ان پر وحی نازل ہوئی کہ کیا آپ اس سے بھی حیران کن راز سے

آگاہ ہونا چاہتے ہیں کہ جسے آپ پر آشکارا کر دیا جائے۔ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ چنانچہ وہ چٹان پھٹ گئی اس میں سے ایک آدمی سبز رنگ کا عصا لئے باہر آیا۔ اس کے پاس انگوروں کی ایک بیل لگی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ یہ میری روزانہ کی خوراک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس پتھر میں کب سے عبادت کر رہے ہو؟۔ اس نے عرض کیا کہ چار سو سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں خیال کرتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر تیرے ہاں اور کوئی بھی فضیلت والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو بھی نصف شعبان کی شب (شب برات) کو دو نفل ادا کر لے گا تو وہ دو نفل اس کے چار سو سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کاش میں بھی امت مصطفیٰ میں سے ہوتا۔

﴿75﴾

شب برات میں حضرت خضر علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی ملاقات

عَنْ بُخَيْرِ بْنِ أَبِي الْبَسْرِيِّ قَالَ : كَانَ وَالِدِي أَبُو مُبَيِّدٍ

فِي الْمَحْرَسِ الْغُرَبِيِّ بِعَمَّا ، فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فِي

الطَّاقَةِ الْغُرَبِيَّةِ مِنَ الرِّوَاقِ الْقَبْلِيِّ وَأَنَا فِي الرِّوَاقِ الشَّامِيِّ فِي

الطَّاقَةِ أَنْظَرُ إِلَى الْبَحْرِ فَبَيْنَا أَنَا أَنْظَرُ إِذَا أَنَا بِشَخْصٍ يَمْشِي

عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ بَعْدَ الْمَاءِ مَشَى عَلَى الْهَوَاءِ ، حَتَّى جَاءَ إِلَى وَالِدِي
 أَبِي عُبَيْدٍ فَدَخَلَ مِنْ طَاقَتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا يَنْظُرُ إِلَى الْبَحْرِ ،
 فَجَلَسَ مَعَهُ مَلِيًّا يَتَحَادَثَانِ ثُمَّ قَامَ وَالِدِي فَوَدَعَهُ ، وَرَجَعَ
 الرَّجُلُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ يَمْشِي فِي الْهَوَاءِ ، فَقُمْتُ إِلَى وَالِدِي قُلْتُ لَهُ:
 يَا أَبَتِ مَنْ هَذَا الَّذِي كَانَ عِنْدَكَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِ
 الْمَاءِ عَلَى الْهَوَاءِ ؟ فَقَالَ يَا بَنِي وَهَلْ رَأَيْتَهُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ:
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي سَرَّنِي بِكَ وَبِنَظْرِكَ لَهُ ، يَا بَنِي هَذَا
 أَبُو الْعَبَّاسِ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . نَحْنُ الْيَوْمُ فِي الدُّنْيَا سَبْعَةٌ ،
 سِتَّةٌ يَجِيئُونَ إِلَى أَبِيكَ وَأَبُوكَ مَا يَمُضِي إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ .

- ابن عساکر جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 285 -

- طبقات الاولیاء (ابن ملقن) حالات 245ھ -

بخیت بن ابی عبید البسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک مرتبہ شبِ برات
 میں میرے والد ابو عبید عکا کے مقام پر متعین ایک غربی محافظ دستہ میں سائبان
 کے اگلے حصہ میں تھے اور میں شامیوں کے مورچہ میں موجود تھا اس وقت میں
 سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا جب ایک آدمی پانی پر چلتا ہوا آیا، پانی پر چلنے کے بعد
 وہ ہوا میں چلنے لگا یہاں تک کہ وہ میرے والد ابو عبید کے پاس آیا۔ پس وہ
 --- پس وہ ان کے پاس بیٹھ گیا اور دونوں گفتگو کرنے لگے۔ پھر میرے والد
 نے انہیں الوداع کیا اور وہ آدمی واپس پلٹا اسی طرف جہاں سے آیا تھا ہوا میں

چلتے ہوئے اسی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر میں اپنے والد محترم کے پاس گیا اور انہیں عرض کیا کہ اباجی یہ کون تھا جو آپ کے پاس پانی پر چلتے ہوئے آیا پھر ہوا میں چلنے لگا۔ انہوں نے کہا کیا تم نے انہیں دیکھا تھا؟ میں نے کہا: جی اباجی۔ انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں (اللہ تعالیٰ کا شکر ہے) جس نے مجھے تجھ سے اور تمہیں ان کی زیارت کی وجہ سے بھی مجھے خوشی دی۔ اے میرے بیٹے یہ ابو العباس حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تھے۔ اے میرے بیٹے ہم دنیا میں سات (ابدال) ہیں۔ چھ تیرے باپ کے پاس آتے ہیں اور تیرا باپ ان میں سے ایک کے پاس نہیں جاتا ہے۔

﴿76﴾

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا واقعہ

إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ صَلَاتِهِ لَيْلَةَ
النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَجَدَ رُقْعَةً خَضْرَاءَ قَدْ اتَّصَلَ نُورُهَا بِالسَّمَاءِ
مَكْتُوبٌ فِيهَا هَذِهِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ مِنَ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ لِعَبْدِي عُمَرَ
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ -

- تفسیر روح البیان سورۃ الدخان آیت نمبر 4 -

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نصف شعبان کی شبِ نفلوں سے فارغ ہوئے تو ایک سبز رنگ کا رقعہ پایا جس پر نور سے لکھا ہوا تھا یہ برات نامہ مالک کائنات عزیز کی طرف سے اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کے لئے ہے۔

﴿77﴾

شب برات اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا اپنے گورنر کو حکم
 إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ
 بْنِ أَرْطَاةٍ وَهُوَ عَلَى الْبَصْرَةِ وَقِيلَ إِلَى عِدِيِّ بْنِ أَرْطَاةٍ: عَلَيْكَ
 بِأَرْبَعِ لَيَالٍ فِي السَّنَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَفْرُغُ فِيهِنَّ الرَّحْمَةَ أَفْرَاقًا، وَهِيَ
 أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ السَّابِعِ
 وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ.

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327۔

- التبصرۃ (ابن جوزی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13۔ (ابن جوزی نے صرف عدی بن ارطاة کا نام لکھا ہے

- الطائف المعارف صفحہ نمبر 162۔ (المجلس الثانی فی نصف من شعبان)۔

- الترغیب والترہیب (اصہبانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393۔

- فیض القدر شرح الجامع الصغیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 454۔

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے گورنر حجاج بن

ارطاة اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے بھائی عدی بن ارطاة کو حکم لکھا: تجھ پر لازم ہے

کہ سال میں (کم از کم) چار راتوں میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرو کیوں

کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں وافر رحمت عطا فرماتا ہے۔ راتیں یہ ہیں: ماہِ رجب کی

پہلی رات، نصف شعبان کی رات (شبِ برات)، ستائیس رجب (شبِ معراج)

کی شب اور عید الفطر کی رات۔

﴿78﴾

محدثین کا حدیث کی کتب روایت کرنے کے لئے

شب برات کا انتخاب

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُ فَرَعْنَا مِنْ سَمَاعٍ كِتَابَ الشَّافِعِيِّ
يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ لِلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ سِتِّ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ
سَمِعْنَا مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ مِنَ الرَّبِيعِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ.

مسند امام شافعی صفحہ نمبر 375۔

حضرت ابو العباس اصم نے فرمایا کہ ہم بدھ کے دن 266ھ میں شب
برات والے دن مسند امام شافعی کے سماع سے فارغ ہوئے۔ ہم نے حضرت ربیع
(ابو محمد ربیع بن سلیمان المرادی) رضی اللہ عنہ (جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے
شاگرد خاص تھے) سے ابتداء سے لے کر انتہا تک مسند امام شافعی سنی بھی اور
انہیں پڑھ کر سنائی بھی۔

﴿79﴾

حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ اور شب برات

إِنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ دَارِهِ
يَوْمَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وَكَانَ وَجْهَهُ قَدْ قُبِّرَ وَدُفِنَ . ثُمَّ أُخْرِجَ
مِنْ قَبْرِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ . فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا الَّذِي أَنْكَسَرَكَ

سَفِينَتَهُ بِأَعْظَمِ مُصِيبَةٍ مِنِّي . قِيلَ لَهُ وَلِمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لِأَنِّي مِنْ
ذُنُوبِي عَلَى يَقِينٍ وَمِنْ حَسَنَاتِي عَلَى وَجَلٍ ، فَلَا أَدْرِي أَتَقْبَلُ
مِنِّي أَمْ تَرُدُّ عَلَيَّ .

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 -

حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ شبِ برات میں اکثر اپنے گھر سے
باہر نکلتے اور آپ کا چہرہ ایسا ہوتا گویا کہ قبر میں کسی کو دفن کر دیا گیا ہو وہ پھر اپنی قبر سے
باہر آجائے۔ لوگوں نے ان کے حال کا سبب پوچھا تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم جس
نے ان کی زندگی کی کشتی توڑ دی ہے میری مصیبت بہت زیادہ ہے۔ لوگوں نے اس
کی وجہ پوچھی تو فرمایا کیوں کہ مجھے اپنے گناہوں پر یقین ہے اور نیکیوں کے متعلق
شک اور میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کچھ قبول کیا جائے گا یا رد کر دیا جائے گا۔

﴿80﴾

شبِ برات کا ایک خاص واقعہ

علامہ ابن ضیاء اور علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمہما اللہ علیہما شبِ برات کے
برکتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ إِنَّهُ
يُكْتَرُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحَيْثُ أَنْ الْبِئْرَ
يَغْصُ بِالْمَاءِ عَلَى مَا قِيلَ لَكِنْ لَا يُشَاهَدُ هَذَا إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَمِمَّنْ
شَاهَدَ ذَلِكَ الشَّيْخُ الصَّالِحُ أَبُو الْحَسَنِ عَلَى الْمَعْرُوفِ بِكَرْبَاجٍ

عَلَى مَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الشَّيْخِ فَخْرِ الدِّينِ النُّورِيِّ عَنْهُ.

- تاریخ مکہ المکرمہ والمسجد الحرام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68۔

- تفسیر روح البیان سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

نصف شعبان کی رات (شب برات) میں سارے سال کی نسبت زیادہ رحمت ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس رات میں (آب زمزم کے) کنویں کا پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس بات پر جو بتائی جاتی ہے۔ لیکن اس بات کا مشاہدہ اولیائے کرام ہی کرتے۔ اور مشاہدہ کرنے والوں میں سے بزرگ صالح حضرت ابوالحسن علی المعروف کرباج رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور یہ بات شیخ فخر الدین نوری رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔

﴿81﴾

شب برات کا ایک اور خاص واقعہ

حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ فَهْدٍ
الْأَزْدِيُّ الْمُؤَصِّلِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَالَقَاسِمِ السَّعْدِيِّ يُحَدِّثُ أَبِي
بِبَغْدَادَ ، قَالَ : كُنْتُ وَأَنَا حَدَّثُ السِّنِّ ، مَشْغُوفًا بِغُلَامٍ لِي شَفِيفًا
شَدِيدًا ، مِنْهُمْ كَأَمْعَةٍ فِي الْفَسَادِ ، فَكَانَ رُبَّمَا هَجَرَنِي فَأَرْضَاهُ
بِكُلِّ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْضَى . قَالَ وَإِنَّهُ غَضِبَ عَلَيَّ مَرَّةً
غَضَبًا شَدِيدًا فَهَرَبَ وَاسْتَتَرَ عَنِّي خَبْرُهُ فَلَحِقَنِي مِنَ الْحَيْرَةِ
وَالْوَلَةِ ، مَا قَطَعَنِي عَنِ النَّظَرِ فِي أَمْرِي ، وَصَيَّرَنِي كَالْمَجْنُونِ

وَاجْتَهَدْتُ فِي صَرْفِ ذَلِكَ عَنِّي فَمَا انْصَرَفَ وَحَضَرَ وَقْتُ خُرُوجِ
 النَّاسِ إِلَى الْحَائِرِ، عَلَى سَاكِنِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَكَتَبْتُ
 رُقْعَةً أَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا الْفَرَجَ مِمَّا آنَا فِيهِ، وَأَتَوَسَّلُ إِلَى
 اللَّهِ تَعَالَى بِالْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَدَفَعْتُهَا إِلَى
 بَعْضِ مَنْ خَرَجَ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَدْفَعَهَا فِي نَاحِيَةِ مِنَ الْقَبْرِ وَكَانَتْ
 لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَفَزَعْتُ إِلَى اللَّهِ فِي كَشْفِ مَا بِي،
 وَتَفَرَّدْتُ بِالصَّلَاةِ وَالذُّعَاءِ، قِطْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ حَمَلَنِي النَّوْمُ
 فَرَأَيْتُ فِي مَنَامِي كَأَنِّي فِي مَقَابِرِ قَرِيشٍ وَالنَّاسِ مُجْتَمِعُونَ
 فِيهَا، إِذْ قِيلَ: قَدْ جَاءَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ لِلزِّيَارَةِ فَتَشَوَّفْتُ لِرُؤْيَيْتِهِمَا فَإِذَا بِالْحُسَيْنِ فِي صُورَةٍ
 كَهَلِّ حَسَنِ الْوَجْهِ بَدَارَعَةٍ وَعِمَامَةٍ وَخُفٍّ قَدْ أَقْبَلَ وَمَعَهُ فَاطِمَةُ
 عَلَيْهَا السَّلَامُ مُنْتَقِبَةً بِنِقَابٍ أَبْيَضٍ وَمُلْحَفَةٌ بَيْضَاءُ. فَاعْتَرَضْتُ
 الْحُسَيْنَ وَقُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَتَبْتُ إِلَيْكَ رُقْعَةً فِي
 حَاجَةٍ لِي فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَعْمَلَ فِيهَا؟ فَلَمْ يُجِبْنِي وَدَخَلَ إِلَى
 الْقُبَّةِ الَّتِي فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 وَدَخَلْتُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مَعَهُ وَكَأَنَّ قَوْمًا قَدْ وَقَفُوا يَمْنَعُونَ
 النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ إِلَيْهَا فَلَمْ أَرَلْ أَكَابِسُ وَأَتَوَسَّلُ إِلَى أَنْ
 دَخَلْتُ عَلَيْهِ الْخَطَابَ فَلَمْ يُجِبْنِي. فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ: يَا سَيِّدَةَ النِّسَاءِ

اِنْ رَأَيْتِ اَنْ تَعْمَلِ فِيْ اَمْرِيْ فَقَالَتِ عَلٰى اَنْ تَتُوْبَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ
 فَقَالَتِ اَللّٰهُ؟ فَقُلْتُ: اَللّٰهُ. فَكَرَّرَتْ ذٰلِكَ عَلٰى ثَلَاثًا ثُمَّ اُوْمَاكَ اِلٰى
 جَمَاعَةٍ مِّمَّنْ كَانُوْا قِيَامًا، فَقَالَتِ: خُذُوْهُ فَاخْذُوْنِيْ وَنَزَعَتْ خَاتَمًا
 مِنْ يَدِهَا فَدَفَعَتْهُ اِلَيْهِمْ وَخَاطَبَتْهُمْ لَا اَفْهَمُهُ، فَحَمَلُوْنِيْ حَتّٰى غَبَبْتُ
 عَنْ عَيْنِيْهَا وَاضْجَعُوْنِيْ وَحَلُّوْا سَرَ اَوْيَلِيْ وَشَدُّوْا ذِكْرِيْ بِخَيْطِ
 حَبْلِيْ، وَوَضَعُوْا عَلٰى الشِّدِّ طِيْنًا، وَخَتَمُوْهُ بِالْخَاتَمِ، فَوَرَدَ عَلٰى
 مِنْ اَلْاَلَمِ اَمْرٌ عَظِيْمٌ، اَنْبَهَنِيْ فَاَنْتَبَهْتُ وَقَدَاثِرُ الْخَيْطِ فِي
 الْمَوْضِعِ، وَصَارَ اَثْرُ الْخَاتَمِ كَاَنَّهُ الْجَدِيْرِيُّ، مُسْتَدِيْرًا حَوْلَ
 الْمَوْضِعِ ثُمَّ قَالَ لِاَبِيْ مُحَمَّدٍ: اِنْ شِئْتُ كَشَفْتُ لَكَ فَاَرَيْتُكَ؟ فَقَدْ
 اَرَيْتُهُ لِجَمَاعَةٍ. فَقَالَ: لَا اسْتَحِلُّ النَّظْرَ ذٰلِكَ. قَالَ السَّعْدِيُّ:
 فَاَصْبَحْتُ مِنْ غَدٍ وَمَا فِيْ قَلْبِيْ اَلْبَتَّةَ مِنَ الْغُلَامِ شَيْءٌ (طويل
 روايت) قَالَ: اَبُوْ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ اَبُوْ عَلِيٍّ الْقَارِي الضَّرِيْرُ، قَدْ سَمِعَ
 مَعِيْ هٰذَا الْخَبْرَ مِنَ السَّعْدِيِّ، فَاخْبَرَنِيْ مُدَّةً طَوِيْلَةً. وَحَلَفَ لِيْ
 عَلٰى ذٰلِكَ. اَنَّهُ رَأَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ لَهَا: يَا
 سَيِّدَتِيْ مَنَامُ السَّعْدِيِّ الَّذِيْ حَكَاهُ صَحِيْحًا؟ فَقَالَتِ نَعَمْ.

۔ الفرج بعد الشد ۱۱۱: الباب السادس: ابوالقاسم السعدی برقی منامافیتوب عن فعل المنکر۔

ابو محمد یحییٰ بن محمد بن سلیمان بن فہد الازدی الموصلی نے کہا کہ میں نے

ابوالقاسم السعدی سے سنا انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بغداد میں بیان

کیا کہ میں ابھی عنقوان شباب میں ہی تھا کہ مجھے ایک لڑکے کے ساتھ بہت ہی دلچسپی ہو گئی جو کہ فساد قلب تک پہنچ گئی۔ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا کہ وہ لڑکا اگر روٹھ جاتا تو میں اس کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرتا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جاتا۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ وہ مجھ پر بہت سخت ناراض ہو کر کہیں چلا گیا یہاں تک کہ اس کا اتا پتہ بھی مجھے معلوم نہ ہوا، اور میں شدتِ غم سے پاگل پن کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ اس کی اس مفقود الخبری نے مجھے پاگلوں جیسا کر دیا۔ میں نے اسے بھلانے کی بہت کوشش کی لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اور لوگوں کے افضل الصلاة والسلام کی زیارت گاہ کی طرف جانے کا وقت آ گیا، تو میں نے ایک رقعہ لکھا جس میں میں نے اللہ تعالیٰ سے جس مصیبت میں تھا اس سے چھٹکارا پانے کی التجا کی۔ اور میں نے اس میں حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا وسیلہ بھی پیش کیا۔ زیارت گاہ کی طرف جانے والے ایک شخص کو وہ رقعہ دے دیا تاکہ وہ اسے قبر مبارک کے ایک کونہ میں ڈال دے۔

یہ رات ”شب برات“ تھی۔ میں اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بہت گڑگڑایا۔ میں نے رات کا ایک حصہ نوافل اور دعا میں گزار دیا۔ پھر مجھے نیند نے آلیا۔ میں نے خواب دیکھا: گویا کہ میں قریش کے قبرستان میں ہوں۔ اور وہاں پر بہت سے لوگ جمع ہیں۔ اس دوران کہا گیا کہ حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما زیارت کے لئے تشریف لارہے ہیں۔ مجھے ان دونوں کی زیارت کا بہت شوق پیدا ہوا چنانچہ

حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بزرگانہ صورت نظر آئی وہ انتہائی حسین صورت، زرہ پوش، عمامہ شریف باندھے ہوئے اور موزے پہنے تشریف لائے۔ ان کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سفید نقاب اور اور چادر میں لپٹی باپردہ تشریف لارہی تھیں۔ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جو گدازش پیش کی تھی اس میں آپ نے غور فرمایا ہے؟۔ آپ نے مجھے جواب عنایت نہیں فرمایا۔ اور آپ حضرت سیدنا امام محمد بن علی بن موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے قبہ مبارک میں داخل ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا داخل ہو گئیں۔ کچھ لوگ وہاں پر کھڑے تھے جو دوسرے لوگوں کو وہاں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ پس میں بہت زیادہ کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا جہاں سے میں بات کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے دوبارہ فریاد پیش کی تو آپ نے مجھے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی خدمت میں عرض کیا کہ اے سیدۃ النساء اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں تو کرم نوازی فرمادیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم تو بہ کرنا چاہتے ہو؟۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم؟۔ میں نے کہا اللہ کی قسم۔ آپ نے مجھ سے تین مرتبہ قسم لی۔ اس کے بعد آپ نے جو لوگ کھڑے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اسے پکڑ لو انہوں نے مجھے پکڑ لیا

آپ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور ان لوگوں کو دے دی اور ان کے ساتھ ایسی زبان میں گفتگو فرمائی جسے میں نہ سمجھ سکا۔ ان لوگوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور آپ کی نظروں سے مجھے اوجھل کر دیا۔ انہوں نے مجھے چت لٹا کر ایک رسی سے مجھے بہت مضبوطی سے باندھ دیا اور اس کے اوپر گوندھی ہوئی مٹی لگا دی اور اس پر مہر لگا دی۔ اس سے مجھے بہت سخت تکلیف ہونے لگی۔ اتنی زیادہ تکلیف کہ میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے اس جگہ پر رسی کا نشان دیکھا اور گویا کہ مہر کا نشان گولائی کی شکل میں ابھرے ہوئے چچک کے نشان جیسا ہو گیا۔ پھر اس نے میرے باپ سے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے وہ نشان دکھا دوں؟۔ تو وہ نشان اس وقت کافی تعداد میں لوگوں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے اپنی نظر کو پھر برباد نہیں کیا۔ سعدی نے کہا کہ اگلے دن میرے دل میں اس لڑکے کے بارے میں کوئی بھی خیال نہیں رہا (آگے طویل روایت)۔ ابو محمد نے کہا کہ ابو علی قاری ضریر نے یہ واقعہ میرے ساتھ ہی سنا انہوں نے مجھے ایک عرصہ دراز کے بعد بتایا اور اس پر انہوں نے قسم بھی اٹھائی کہ ایک دفعہ انہیں شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی خواب میں زیارت کا شرف حاصل ہوا تو میں نے انہیں عرض کیا کہ اے میری سردار کیا یہ واقعہ صحیح ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ واقعہ درست ہے۔

نوٹ: حدیث الواقعه علی رواة (برکاتی غفرلہ)

﴿82﴾

حضرت مالک بن دینار کی توبہ شب برات کا واقعہ

ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے دنیا چھوڑ کر راہِ مولا اختیار کی اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک شرابی انسان تھا ہر وقت شراب کے نشہ میں دھت رہتا تھا۔ اسی زمانہ میں ایک حسینہ و جمیلہ کنیز خریدی۔ اس کنیز کے لطن سے ایک بچی پیدا ہوئی اس سے مجھے بے حد محبت ہو گئی۔ وہ بیٹی ذرا بڑی ہو کر کھیلنے لگی تو اس کی محبت نے اور جڑ پکڑ لی۔ پھر ایسا ہوتا کہ جب میں شراب لے کر بیٹھتا تو وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ جاتی اور شراب کا پیالہ چھینتے ہوئے میرے کپڑوں پر گرا دیتی۔ وہ میری بیٹی جب دو سال کی ہوئی تو اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے غم نے مجھے بد حال کر دیا۔ شب برات آئی اس وقت جمعہ کی رات بھی تھی۔ میں نے اس شب بھی شراب پی۔ اور شراب کے نشہ میں کھو گیا۔ عشاء کی نماز بھی نہ پڑھ سکا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا میدان ہے مردے قبروں سے نکل نکل کر آ رہے ہیں انہی میں میں بھی ہوں مجھے اپنے پیچھے کسی چیز کی آہٹ محسوس ہوئی۔ مڑ کر جو دیکھا تو پیچھے بہت بڑا کالا سانپ منہ کھولے میری ہی طرف دوڑا آ رہا ہے۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور میں بھاگنے لگا۔ راہ میں مجھے ایک سفید پوش بزرگ ملا میں نے اس کی منت سماجت کی کہ مجھے اس مہلک سانپ سے

بچا لو مگر اس نے معذرت کر لی کہ میں کمزور آدمی ہوں اور سانپ بہت زبردست ہے اس لئے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا مگر آگے جاؤ شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی راستہ ظاہر فرمادے۔ میں وہاں سے آگے دوڑا اور ایک بلند ٹیلہ پر چڑھ گیا جہاں سے جہنم کی آگ، اس کے طبقات اور بھڑکتے شعلے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پیچھے آتے سانپ کے ڈر سے بھاگنے لگا کہ کہیں جہنم میں نہ گر پڑوں۔ اتنے میں غیب سے ایک آواز سنی پیچھے ہٹ جا تو دوزخی نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے قدرے اطمینان ہوا، میں وہاں سے پلٹا تو سانپ بھی میرے پیچھے پلٹ آیا ایک آواز سن کر میں اس بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے میری اس سانپ سے بچنے میں مدد کیوں نہیں کی؟۔ ضعیف آدمی میری بات سن کر رونے لگا میں تو ضعیف و ناتواں ہوں مگر تم اس ٹیلے پر چڑھ جاؤ اس میں اہل ایمان کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں اگر تمہاری بھی کوئی امانت ہوئی تو تمہیں بھی ضرور مل جائے گی۔ میں ادھر بھاگا وہ ایک گول پہاڑی تھی۔ اس کے اندر بہت سے دروازے تھے دروازوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ ہر دروازہ پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے سونے کے پٹ لگے ہوئے تھے۔ میں پہاڑی پر دوڑا تو وہ سانپ بھی میرے تعاقب میں آیا میں دروازہ پر پہنچا تو ایک فرشتہ نے پکار کر آواز دی: پردے اٹھا دو، دروازے کھول دو۔ شاید اس بد حال کی یہاں امانت ہو جو اس کے دشمن سے اسے بچا سکے۔ دروازہ کھلتے ہی بہت سے چاند جیسے خوبصورت بچے میرے پاس آگئے۔ اتنے میں سانپ بھی میرے قریب آ گیا۔ بچوں میں سے

ایک نے چیخ مار کر کہا: سب کے سب جلدی پہنچو۔ سانپ تو اس کے قریب آ گیا۔ اسی اثناء میں میری بیٹی بھی وہاں آ گئی۔ اور رو کر بولی بخدا یہ تو میرے باپ ہیں۔ یہ کہہ کر ایک نورانی جھولے میں بجلی کی سی سرعت کے ساتھ وہ میرے پاس آ پہنچی۔ پھر اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری دائیں جانب بڑھایا جسے میں نے پکڑ لیا۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ سانپ کی طرف بڑھایا تو وہ پیچھے کو بھاگ نکلا۔ اور پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں آ بیٹی اور میری ریش میں ہاتھ پھیرا اور بولی

الْمُ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ

مِنَ الْحَقِّ

ترجمہ: کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لئے جو نازل ہوا۔

(حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ) میں یہ سن کر آبدیدہ ہو گیا۔ میں

نے پوچھا اے بیٹی کیا تم قرآن مجید بھی جانتی ہو؟۔ بیٹی نے کہا کہ ہم لوگوں کو آپ

سے زیادہ علم ہے حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ وہ سانپ جو مجھے

ڈرا رہا تھا یہ کیا مصیبت تھی؟۔ بیٹی نے بتایا کہ یہ آپ کا برا عمل تھا۔ آپ نے

اسے مضبوط بنایا تو وہ تو انا اور مضبوط ہو گیا اور آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا تھا۔

حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے؟۔ بیٹی نے بتایا کہ یہ

آپ کا نیک عمل تھا جسے آپ نے اتنا کمزور کر دیا کہ آپ کے عمل بد سے ٹکرانے

کی اس میں ہمت نہ رہی۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ تم لوگ اس پہاڑی پر کیا کر رہے ہو؟۔ بیٹی نے جواب دیا کہ ہم سب مسلمانوں کی اولاد ہیں اور قیامت تک یہیں رہیں گی۔ ہم لوگوں کو آپ لوگوں کا انتظار ہے تاکہ ہم شفاعت کر سکیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں حیران و پریشان تھا۔ مجھ پر خوف طاری تھا۔ صبح ہوئی تو جو سرمایہ میرے پاس تھا لوگوں کو دیدیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور صدقِ دل سے توبہ کی۔ یہی واقعہ میری توبہ کا سبب ہوا

نوٹ: حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سمیت بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت بھی کی ہے اور ان سے فیض بھی حاصل کیا۔

- کشف الخفاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 -

- الزہر الفاتح (ابن جوزی) باب اقوال الصالحین فی التوبۃ -

- الروض الریاحین (یافعی) صفحہ نمبر 227 -

- الکبائر (ذہبی) باب الکبیرۃ التاسعة والاربعون - صفحہ نمبر 183 -

- التواہین (ابن قدامہ مقدسی) صفحہ نمبر 203 -

- الزواجر (ابن حجر مکی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 -

- تفسیر روح البیان سورۃ الحدید آیت نمبر 17 + سورۃ الملک آیت نمبر 30 -

- نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 -

﴿83﴾

حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شب برات کی

حکمت بیان کرنا

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شب برات کی حکمت

بیان کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں

إِنَّ الْحِكْمَةَ فِي أَنْ اللَّهُ تَعَالَى أَظْهَرَ لَيْلَةَ الْبَرَاءَةِ وَأَخْفَى
 لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ الرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ وَالْعِتْقِ مِنَ النَّيِّرَانِ ، أَخْفَاهَا
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّ لَا يَتَكَلَّمُوا عَلَيْهَا وَأَظْهَرَ لَيْلَةَ الْبَرَاءَةِ لِأَنَّهَا لَيْلَةُ
 الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ ، وَلَيْلَةُ السُّخْطِ وَالرِّضَا ، لَيْلَةُ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ
 وَالْوُصُولِ وَالصَّدِّ . لَيْلَةُ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاءِ وَالْكَرَامَةِ وَالنَّقَاءِ .
 فَوَاحِدٌ فِيهَا يُسَعَّدُ وَالْآخَرُ فِيهَا يُبْعَدُ ، وَوَاحِدٌ يُجْزِي وَوَاحِدٌ
 يُخْزِي وَوَاحِدٌ يُكْرِمُ وَالْآخَرُ يُهْجِرُ . فَكَمُ مِنْ كَفْنٍ مَفْسُورٍ
 وَصَاحِبُهُ فِي السُّوقِ مَشْغُولٌ ، وَكَمُ مِنْ قَبْرِ مَحْفُورٍ وَصَاحِبُهُ
 بِالسَّرُورِ مَغْرُورٌ ، وَكَمُ مِنْ فَمِّ ضَاحِكٍ وَهُوَ عَنْ قَرِيبٍ هَالِكٌ ،
 وَكَمُ مِنْ مَنْزِلٍ كَمَلْ بِنَائِهِ وَصَاحِبُهُ قَدْ أَرَفَّ يَغْنَى قَرَبَ فَنَائِهِ ،
 وَكَمُ مِنْ عَبْدٍ يَرْجُو الثَّوَابَ فَيَبْذُرُ لَهُ الْعِقَابُ ، وَكَمُ مِنْ يَرْجُو
 الْبَشَارَةَ فَتَبْذُرُ لَهُ الْخَسَارَةَ ، وَكَمُ مِنْ عَبْدٍ يَرْجُو الْجَنَانَ فَتَبْذُرُ

لَهُ النَّيِّرَانَ ، وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ يَرْجُو الْوَصْلَ فَيَبْدُو لَهُ الْفُصْلُ ، وَكَمْ
 مِنْ يَرْجُو الْعَطَاءَ فَيَبْدُو لَهُ الْبَلَاءُ ، وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ يَرْجُو الْمَلْكَ
 فَيَبْدُو لَهُ الْهَلْكَ .

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 -

شب برات کو ظاہر کر دیا گیا ہے اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا، بے شک اس میں حکمت یہ ہے کہ شب قدر رحمت و آمرزش اور دوزخ سے آزاد ہونے کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا تاکہ سب لوگ اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں اور شب برات کو اس لئے ظاہر کر دیا وہ رات حکم کی رات ہے وہ قہر و رضا کی رات ہے اور قبول و رد کی رات ہے، نزدیکی و دوری کی رات ہے، سعادت و شقاوت، کرامت و پرہیزگاری کی رات ہے۔ ایک تو اس رات نیک بخت کیا جاتا ہے دوسرا مردود کیا جاتا ہے ایک جزا دیا جاتا ہے دوسرا خوار کیا جاتا ہے، ایک بزرگی دیا جاتا ہے دوسرا محروم کیا جاتا ہے، ایک مزدوری دیا جاتا ہے اور دوسرا دور پھینکا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کا کفن تیار ہے وہ بازار میں خرید و فروخت میں مصروف ہیں، بہت سے لوگ جن کی قبریں کھودی ہوئی موجود ہیں اور وہ خوشی و خرمی میں مشغول و مغرور ہیں۔ اور بہت منہ ہنسنے والے ہیں جو کہ عنقریب ہلاک ہونے والے ہیں اور بہت سے ایسے محل تیاری کے قریب ہیں جن کے صاحب فنا ہونے کے قریب ہیں اور بہت سے بندے ثواب کے امیدوار ہیں اور ان کے لئے عذاب ظاہر ہونے والا اور بہت سے بندے

خوشخبری کے امیدوار ہیں اور انہیں نقصان پہنچنے والا ہے اور بہت سے ایسے لوگ جنت کے امیدوار ہیں جن کو دوزخ نصیب ہوتی ہے اور بہت سے بندے وصل کی امید رکھتے ہیں اور ان کے نصیب میں جدائی لکھ دی گئی ہے۔ اور بہت سے بندے بخشش کی امید رکھتے ہیں اور ان پر بلا نازل ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگ بادشاہت پانے کی امید رکھتے ہیں اور ان کو ہلاکت نصیب ہوتی ہے۔

﴿84﴾

اے غافل غفلت چھوڑ دے

أَنْ نَقُومَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَنَصُومَ نَهَارَهَا وَنَسْتَعِدَّ
لَهَا بِالْجُوعِ الشَّاقِ وَقِلَّةِ الْكَلَامِ وَالصِّمَةِ . فَإِنَّ مَنْ يَشْبَعُ لَيْلَتِهَا
وَأَكْثَرَ اللَّغْوِ مِنَ الْكَلَامِ وَالْغَفْلَةَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَذُوقُ لَمَّا فِيهَا
مِنَ الْخَيْرَاتِ طَعْمًا وَلَوْ سَهَرَ فَهُوَ كَالْجَمَادِ لَا يَحِسُّ شَيْئًا وَمَا
حَتَّ الشَّارِعُ الْعَبْدَ عَلَى الْأَسْتِعْدَادِ لِحُضُورِ الْمَوَاقِبِ الْإِلَهِيَّةِ إِلَّا
لِيَشْعَرَ بِذَلِكَ فَاتِهِ خَيْرٌ كَبِيرٌ فَعَلِمَ أَنَّهُ يُحِبُّ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ
يَتُوبَ مِنْ جَمِيعِ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَمْنَعُ حَصُولَ الْمَغْفِرَةِ
لِصَاحِبِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَبْلَ دُخُولِ لَيْلَةِ النِّصْفِ
كَالْمُشَاجِنِ بِغَيْرِ عُدْرِ شَرْعِيٍّ وَكَأَخِذِ الْعُشُورِ مِنَ الْمَكْسِ
وَكَالْعُقُوقِ لِلْوَالِدَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَجِبُ السَّعْيُ فِي إِزَالَةِ مَا عِنْدَنَا

مِنَ الشُّحْنَاءِ وَمَا عِنْدَ غَيْرِنَا مِنْهَا فِي حَقِّنَا وَلَوْ بِإِرْسَالِ كَلَامٍ
 طَيِّبٍ أَوْ مَدْحٍ بَيْنِ الْأَقْدَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَاهْدَاءِ هَدِيَّةٍ وَبَدْلِ مَالٍ
 لِنَنَالَ الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَلَا نَتَهَاوَنُ
 بِالْمُبَادَرَةِ فِي إِزَالَةِ الشُّحْنَاءِ إِلَى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَرُبَّمَا
 يَتَعَسَّرُ عَلَيْنَا إِزَالَةُ مَا عِنْدَنَا أَوْ عِنْدَ الْمُشَاحِنِ لَنَا مِنَ الْحَقْدِ
 الْكَبِيرِ فَتَفُوتُنَا الْمَغْفِرَةُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. وَبِالْجُمْلَةِ فَيَحْتَاجُ مَنْ يُرِيدُ
 الْعَمَلَ بِهَذَا الْعَهْدِ إِلَى السُّلُوكِ عَلَى يَدِ شَيْخٍ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَحَبَّةِ
 الدُّنْيَا وَاغْرَاضِهَا وَمُنَاصِبِهَا وَطَلَبِ الْمَقَامِ عِنْدَ أَهْلِهَا وَمَنْ لَمْ
 يَسْلُكْ كَذَلِكَ فَمَنْ لَازِمَةٌ غَالِبًا الشُّحْنَاءُ بِوَاسِطَةِ الدُّنْيَا أَمَا لِكُونِهِ
 يَحُوفٌ عَلَى النَّاسِ أَوْ هُمْ يَحُوفُونَ عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ قُلِ الْعَامِلُونَ
 بِهَذَا الْعَهْدِ حَتَّى مِنَ الْعُلَمَاءِ وَمُشَاحِنِ الرِّوَايَا فَتَرَاهُمْ تَدْخُلُ
 عَلَيْهِمْ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَأَحَدُهُمْ مُشَاحِنُ أَخَاهُ وَلَا يُبَالِي
 بِمَا يَفُوتُهُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ الْعَظِيمَةِ.

- لوائح الانوار القدسيہ فی العہود الحمدیہ صفحہ نمبر 82 -

یہ کہ ہم شب برات میں قیام کریں اور اس کے دن میں روزہ رکھیں اور ہم
 شب برات میں تیاری کریں قابل برداشت بھوک کے ساتھ، تھوڑے کلام اور
 خاموشی کے ساتھ۔ کیوں کہ جو شخص اس رات میں پیٹ بھرا ہوا ہو، کثرت سے
 بیہودہ گفتگو کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو تو وہ اس رات کی

حسنت و خیرات کا ذائقہ نہیں پاسکتا اور اگر وہ جاگے گا بھی تو وہ بے جان پتھروں کی طرح ہی ہوگا جو کہ کچھ بھی محسوس نہیں کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بندے میں روحانی اجتماعات میں شرکت کرنے کی استعداد ابھاری تاکہ وہ روحانیت کو محسوس کر سکے۔ پس اسے خیر ہی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ جو کچھ احادیث میں بیان ہوا ہے اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن پر ضروری ہے کہ وہ ایسے تمام معاملات سے شب برات کے داخل ہونے سے پہلے توبہ کر لے جو انسان کی مغفرت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ بغیر شرعی عذر کے چغل خوری کرنا جیسا کہ بغیر وجہ کے عشور کو ٹیکس بنالینا جیسا کہ والدین کی نافرمانی اور اس جیسے گناہ۔ ہمارے نزدیک اور ہمارے علاوہ دیگر لوگوں کے نزدیک بھی چغل خوری وغیرہ سے توبہ کرنی ضروری ہے اگرچہ اچھے کلمات یا مدح وغیرہ کے ذریعے ہو۔ اور اس جیسی دیگر کاوشوں کے ذریعے ہو جیسا کہ تحائف بھیج کر، یا مال خرچ کر کے ہو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس رات مغفرت طلب کی جاسکے اور ہم شب برات میں چغل خوری کے ازالہ کو کسی بھی طرح حقیر نہ سمجھیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ازالہ کے لئے ہم پرتنگی ہو یا پوشیدہ کینہ پروری سے ہماری چغل خوری کرنے والا ہو، اسی بناء پر اس رات ہماری مغفرت نہیں ہو پاتی۔ المختصر ضرورت اس امر کی ہے ہم اس معاملہ اپنے شیخ کے ہاتھوں پر تائب ہوں تاکہ وہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت اس کی ضرورتیں اور اس کی جاہ و حشمت اور اہل دنیا کے نزدیک مرتبہ طلبی نکال دیں۔ اور جو کوئی اس راستہ پر اس

طرح نہ چل سکا اور اسی طرح جس نے دنیا کے واسطے چغتل خوری کو لازم رکھا تو یا تو وہ دنیا کے کنارے پر ہو جائے گا یا دنیا خود اسے کنارے پر کر دے گی (یعنی یا تو وہ خود ہی دنیا کے لئے بے کار ہو جائے گا یا دنیا اسے بے کار کر دے گی) اس لئے اے بھائی تو دنیا میں عمل کرنے والوں سے یہ کہہ دے حتیٰ کہ علماء اور بکھرے ہوئے مشائخ کو بھی۔ وگرنہ تم دیکھو گے کہ ان سب پر شبِ برات آتی بھی ہے اور ان میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کی چغتل خوری بھی کرتا ہے اور وہ اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ وہ کتنی بڑی مغفرت ضائع کر چکا ہے۔

﴿85﴾

اللہ والوں کو شبِ برات میں اپنی موت کا فیصلہ اور اپنی جائے تدفین کا علم ہو جانا

وَسَمِعْتُ أَخِي أَفْضَلَ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْضِعُ طِينِي
الَّتِي عُجِنَتْ مَعَ طِينَةِ أَبِي آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ تَزَلْ رُوحِي
تُشَاهِدُ ذَلِكَ الْمَكَانَ إِلَى وَقْتِي هَذَا. فَقُلْتُ لَهُ سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ أَنْ
تُعَلِّمَنِي بِمَحَلِّهَا. فَقَالَ عَلَى يَمِينِ مَنْزِلِ الْحَاجِّ بِبَدْرٍ قَرِيبًا مِنْ
مَسْجِدِ الْغَمَامِ. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ سَافَرَ إِلَى هُنَاكَ فَدُفِنَ بِهَا
فَكَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ. وَأَخْبَرْتَنِي وَالِدَتُهُ إِنَّهُ قَالَ لَهَا لَيْلَةَ النِّصْفِ
مِنْ شَعْبَانَ تِلْكَ السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا: إِنَّ وَرَقَتِي اللَّيْلَةَ نَزَلَتْ

بِمَوْتِي وَدَفْنِي فِي بَدْرٍ - قَالَتْ : فَقُلْتُ : إِنَّ وَلَدِي مَيِّتٌ تِلْكَ
السَّنَةَ لِأَنِّي مَاعَهَدْتُ عَلَيْهِ قَطُّ كَذِبًا . فَسَافَرَ تِلْكَ السَّنَةَ إِلَى مَكَّةَ
وَهُوَ مَرِيضٌ فَصَارَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ : حَيْجٌ مِثْلَكَ لَا يَجِبُ
وَلَا يَسْتَحِبُّ بِالْأَجْمَاعِ - فَيَقُولُ : مَا أَنَا مُسَافِرٌ لِلْحَيْجِ وَإِنَّمَا أُسَافِرُ
لِقَبْرِئِي فَمَرِضٌ فِي الذَّهَابِ - وَمَاتَ قَبْلَ بَدْرٍ بِمَرْحَلَةٍ فَحُمِلَ إِلَى
بَدْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمِثْلُ هَذَا هُوَ الَّذِي يُوصَى بِالذَّفْنِ بِمَكَانٍ
مُعَيَّنٍ -

- لوائح الانوار القدسيه في العهود والمجدي (عبد الوهاب بن احمد شعراني) صفحہ نمبر 240۔

(عبد الوهاب بن احمد شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ) میں نے اپنے پیر
بھائی افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں: میں اپنی مٹی کی جگہ جانتا ہوں
وہ مٹی جو میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کے ساتھ گوندھی گئی تھی اور میری
روح اب بھی اس جگہ کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے
اللہ تعالیٰ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس جگہ کے بارے میں بتادیں
۔ انہوں نے کہا کہ وہ جگہ حاجیوں کی جائے قیام ”بدر“ کے دائیں طرف مسجد غمام کے
قریب ہے۔ چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہاں کا سفر کیا
اور وہیں دفن کئے گئے اور یہ معاملہ اسی طرح ہی ہوا جس طرح انہوں نے کہا تھا۔ مجھے
ان کی والدہ نے ان کے وصال کے بعد بتایا کہ جس سال ان کا وصال ہوا تھا اس سال
انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس شبِ برات میں میری موت کا اور میرے بدر میں دفن

ہونے کا پروانہ جاری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میرا بیٹا اس سال فوت ہو جائے گا کیوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بھی جھوٹا نہیں پایا۔ چنانچہ انہوں نے اس سال مکہ کی طرف سفر کیا جب کہ وہ بیمار تھے۔ لوگوں نے کہا اس بات پر اجماع ہے کہ تجھ جیسے بیمار شخص پر حج فرض نہیں ہے اور نہ ہی حج مستحب ہے۔ انہوں نے کہا میں حج کے لئے سفر نہیں کر رہا بلکہ میں تو اپنی قبر کے لئے سفر کر رہا ہوں چنانچہ اس سفر کے دوران ان کی بیماری شدید ہو گئی۔ اور وہ بدر سے پہلے ہی فوت ہو گئے چنانچہ انہیں اٹھا کر بدر منتقل کیا گیا اور وہی ہوا۔ اس طرح وہ اسی مخصوص جگہ میں ہی دفن ہوئے جس جگہ کی انہوں نے وصیت کی تھی۔

﴿86﴾

شب برات میں اللہ والوں کی نصیحت

فَقُمْ لَيْلَةَ النِّصْفِ الشَّرِيفِ مُصَلِّياً فَأَشْرَفَ هَذَا الشَّهْرَ لَيْلَةَ نِصْفِهِ
فَكَمْ مِنْ قَتْلٍ قَدْ بَكَتَ فِي النِّصْفِ غَافِلاً وَقَدْ نُسِخَتْ فِيهِ صَحِيفَةٌ حَتْفُهُ
فَبَادِرُ بِفِعْلِ الْخَيْرِ قَبْلَ انْقِضَائِهِ وَحَازِرُ هُجُومِ الْمَوْتِ فِيهِ بِصَرْفِهِ
وَصُمْ يَوْمَهَا لِلَّهِ وَأَحْسِنُ رَجَائَهُ لِتَنْظُرَ عِنْدَ الْكَرْبِ مِنْهُ بِلُطْفِهِ

فضائل الاشمہ تلخیص لطائف المعارف باب وظائف شہر شعبان۔

لطائف المعارف وظائف شہر شعبان باب مجلس الثانی فی نصف شعبان۔

تو کھڑا ہو شب برات میں نفل پڑھتا ہو اور اس ماہ مبارک کی شب برات

کی عزت کر

کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو اس رات کو غفلت میں گزارتے ہیں جب کہ ان کی زندگی کی کتاب بند کر دی گئی ہے۔

زندگی کی مدت پوری ہونے سے پہلے نیکی کے کام کر لے اور موت کے اچانک آنے کے اثرات سے خود کو بچا۔

اللہ تعالیٰ کی رضاء کے لئے شب برات کے دن کا روزہ رکھ اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید وابستہ رکھتا کہ تو اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے قیامت کی مصیبتوں میں کامیاب ہو سکے۔

﴿87﴾

شب برات میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا

محمد بن علی بن خلف کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ:

كَانَ كَرِيماً جَوَادًا كَثِيرَ الصَّدَقَةِ كَسَى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَلْفَ
فَقِيرٍ وَكَانَ كَثِيرَ الصَّلَاةِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ الْحَلَاوَةَ لَيْلَةَ النِّصْفِ
مِنْ شَعْبَانَ.

محمد بن علی بن خلف بہت سخی تھے اور کثرت سے صدقہ کرتے تھے ایک ہی دن میں ایک ہزار فقیروں کو انہوں نے کپڑوں کے جوڑے پہنا دیئے۔ وہ کثرت سے نوافل پڑھنے والے تھے۔ اور انہوں نے اولین طور پر شب برات کی حلاوت کو واضح کیا۔

۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 5 (مطبوعہ: مکتبۃ المعارف بیروت)۔

﴿88﴾

بنو فاطمہ کا عہد حکومت اور لوگوں کا شب برات میں مساجد میں

چراغاں کرنے میں باہم مقابلہ کرنا

سن 402ھ میں بنی فاطمہ کے دور حکومت کے واقعات کا ذکر کرتے

ہوئے علامہ مقریزی نے واضح کیا ہے کہ فاطمی حکمرانوں خصوصاً ابوعلی منصور الحکم

بامر اللہ کے عہد حکومت میں شب برات میں عوامی جوش و جذبہ سے مساجد کی

آرائش و زیبائش کا اہتمام کیا جاتا تھا:

وَفِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَثُرَ اِتِّقَادُ الْقَنَادِيلِ فِي

الْمَسَاجِدِ وَتَنَافَسَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ.

۔ اتعاظ الحنفیاء باخبار الائمة الفاطمین الخلفاء (مقریزی) سنہ اثنین و اربع مائتہ۔

شب برات کے موقع پر مسجدوں میں قندیلیں (لائٹنگ) جلانے کی بہت

زیادہ کثرت کی جاتی تھی اور لوگ مسجدوں میں شب برات میں روشنی کرنے میں

ایک دوسرے سے باہم مقابلہ کرتے تھے۔

﴿89﴾

مصر میں حکومتی سطح پر شب برات کا اہتمام

وَكَانَتِ الْقُضَاةُ تَرْكَبُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِتَفَقُّدِ الْجَوَامِعِ

وَالْمَسَاجِدِ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِصْلَاحِ . وَكَانَ الْكِبْرَاءُ الدَّوْلَةُ

يَبْذُلُونَ فِي ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمُسَاعَدَةِ لِابْتِغَاءِ الثَّوَابِ ،
فَيَحْصُلُ الْقَاضِيُ مِنْ ذَلِكَ مِقْدَارَ جَيِّدٍ، فَرَكِبَ الْقَاضِيُ فِي نِصْفِ
مِنْ شَعْبَانَ وَرَجَعَ فَمَا آتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَا دُونَ السَّنَةِ .

- رفع الاصر عن قضاة المصر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192 -

قاضی ایسی مساجد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے جن کی اصلاح اور درستگی
ضرورت ہوتی۔ اور مالدار لوگ حصولِ ثواب کے لئے ان کے ساتھ تعاون کرتے
ہوئے اپنی دولت خرچ کرتے۔ اس سلسلہ میں (چیف) قاضی کافی مقدار میں فنڈ
حاصل کر لیتا پس قاضی شب برات میں سوار ہوتا ہے اور جب وہ واپس پلٹتا ہے تو
اس کے بعد سال بھر میں کوئی بھی رات ویسی تعمیر و ترقی والی نہیں آتی۔

﴿90﴾

انڈس (سین) اور شب برات

منصور حصول علم کے بعد اپنی حکومت کے ایامِ خلافتِ امانات اور فیصلوں
میں انتہائی ذہین، سمجھدار، بہادر اور معاملات میں انتہائی محتاط تھا۔

ثُمَّ مَلَكَ الْأَنْدُلُسَ بِوِلَايَةِ الْحَجَّابَةِ لِهَشَامٍ ، وَذَلِكَ فِي
النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةِ ٥٣٦٦ هـ . فَاسْتَوْلَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ
الْأَمْصَارِ وَصَارَ خَيْرُهُ أَطْيَبَ الْأَخْبَارِ .

- تاریخ قضاة الاندلس صفحہ نمبر 47 -

پھر وہ منصور ہشام کے بعد انڈس پر حکمران مقرر ہوا اور اس کے تقرر کی

تاریخ نصف شعبان (شب برات) 366 تھی۔ وہ بہت سے شہروں کا والی بنا۔ اور اس کے بارے میں بہت ہی اچھی اچھی خبریں ہیں۔

﴿91﴾

شب برات پر حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت
وَلَا يَزَالُ أَهْلُ حَضْرَمَوْتَ يَدُورُونَ قَبْرَهُ إِلَى الْيَوْمِ، مِنْ كُلِّ
سَنَةٍ، وَكَانَ سَابِقُونَ يَدُونَ كَمَالَ الزِّيَارَةِ بِالْحُضُورِ لَيْلَةَ
النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ۔

۔ الاعلام للزرکلی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 102۔

اہل حضرموت آج تک (مصنف کے زمانہ تک) ہر سال حضرت سیدنا
ہود علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرتے رہے ہیں اور اسلاف شب برات
کی آمد پر قبر مبارک پر حاضری کو کمال زیارت سمجھتے ہیں۔

﴿92﴾

مشہور مفکر ابن الہیثم کی اولاد اور شب برات

وَكَانَ ابْنُ رِضْوَانَ يَكْتُبُ خَطًّا مُتَوَسِّطًا مِنْ خُطُوطِ
الْحُكَمَاءِ جَالِسًا مُبِينِ الْحُرُوفِ رَأَيْتُ بِخَطِّهِ مَقَالََةَ الْحَسَنِ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ الْهَيْثَمِ فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ قَدْ شَكَّلَهُ تَشْكِيلًا حَسَنًا
صَحِيحًا يَدُلُّ عَلَى شَجَرِهِ فِي هَذَا الشَّانِ وَكَتَبَ فِي آخِرِهِ وَكَتَبَهُ

عَلِيُّ بْنُ رِضْوَانَ بْنِ جَعْفَرِ الطَّبِيبِ لِنَفْسِهِ وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْهَا فِي
الْيَوْمِ الْجُمُعَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةِ ٤٢٢ هـ لِلْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ.

- اخبار العلماء باخيار الحكماء (محمد قطب العدوی القفطی 646ھ) صفحہ نمبر 190۔

علامہ ابن رضوان حکمائے جالس کی طرز پر جلی حروف میں خط متوسط میں لکھا کرتے تھے۔ میں (محمد قطب العدوی القفطی) نے حسن بن حسن بن یثم کا مقالہ چاند کی روشنی میں علامہ ابن رضوان کی تحریر میں دیکھا۔ انہوں نے اسے انتہائی خوبصورت شکل میں تحریر کیا تھا۔ جو کہ تحریر کے معاملہ میں ان کے ید طولیٰ کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس تحریر کے اختتام پر یہ لکھا تھا: كَتَبَهُ عَلِيُّ بْنُ رِضْوَانَ بْنِ جَعْفَرِ الطَّبِيبِ لِنَفْسِهِ اور اس تحریر سے فارغ ہونے کا وقت بروز جمعہ شب برات والا دن 422ھ ہے۔

﴿93﴾

شب برات اور محفل مشاعرہ

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ النَّطُوبَسِيِّ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْعَقْدِ
الْمَنْظُومِ أَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةِ ٧٢٦ هـ
وَنَحْنُ بِمَنْشِيَةِ مُرْشِدٍ عِدَّةُ أَشْعَارٍ جَيِّدَةٍ.

- الدرر الكامنه جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔

احمد بن ابوالحسن نطوبسی کے بارے میں میں نے کتاب العقد المنظوم میں پڑھا کہ انہوں نے خود اپنے بارے میں شب برات 726ھ میں ہمیں بہت سے عمدہ اشعار سنائے۔

﴿94﴾

خواب میں شب برات دیکھنی

مَنْ رَأَى اللَّيْلَ فِي مَنَامِهِ أَوْ رَأَى نَفْسَهُ فِي لَيْلَةٍ عَلَى حَالَةٍ
 مُلَهِيَّةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ دَالٌّ عَلَى زَوَالِ النِّعَمِ وَذُهُومِ الْحَوَادِثِ وَرُؤْيَا
 اللَّيَالِي الْمَشْرِفَةِ كَلَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي مَنَامٍ بِشَارَةٍ بِكُلِّ خَيْرٍ وَإِنْ كَانَ
 يَطْلُبُ نَزَا ظَفَرَهُ بِهِ وَكَذَلِكَ رُؤْيَا لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةِ
 الْإِسْرَاءِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ.

تَعَطِيرُ الْأَنَامِ فِي تَفْسِيرِ الْأَحْلَامِ (عَبْدُ الْغَنِيِّ نَابِلِي) جُلْدُ نَمْبَرِ 2 صَفْحَةُ نَمْبَرِ 212-

جس نے اپنے خواب میں رات دیکھی یا خود کورات میں کھیل کود میں دیکھا
 تو یہ اس کی نعمتوں کے زوال اور بہت سے حوادث کی نشانی ہے اور جس نے
 بابرکت راتوں کو خواب میں دیکھا جیسا کہ شب قدر ہے تو یہ خیر ہی خیر ہے اور اگر
 اس نے خواب میں قوم پر غلبہ چاہا تو اسے حاصل ہوگا۔ ایسے ہی خواب میں شب
 برات دیکھی، شب معراج یا شب جمعہ دیکھی تو بھی اس کی حاجت پوری ہوگی

﴿95﴾

کبار ائمہ کا شب برات میں اپنی ولادت کا فخریہ ذکر کرنا

حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ کی ولادت

کبار ائمہ کرام میں سے اگر کسی کی زندگی میں ذاتی طور پر شب برات کا

کوئی بھی عمل دخل ہوتا تو وہ اسے لوگوں کے سامنے فخریہ طور پر بتلاتے کہ میری زندگی میں شب برات کا یہ خصوصی تعلق یا عمل دخل ہے جیسا کہ جلیل القدر امام حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فخریہ طور پر لوگوں کو بتلایا کرتے تھے کہ:

وُلِدْتُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَةٍ:

ترجمہ:- میں شب برات ایک سو سات ہجری میں پیدا ہوا۔

- المعرفۃ والتاریخ از نسوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187۔

نوٹ: حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ مشہور ائمہ کرام جیسا کہ حضرت امام شافعی، عبداللہ بن مبارک، عبدالرزاق بن ہمام، اعمش، ابوبکر ابن ابی شیبہ کے استاذ محترم اور امام بخاری اور امام مسلم امام ترمذی رحمہم اللہ علیہم جیسے ائمہ کرام کے دادا استاذ تھے۔ نیز اسی سلسلہ میں آگے کچھ محدثین کی ولادت کے بارے میں بھی بیان آئے گا۔ ان شاء اللہ العزیز

﴿96﴾

حضرت سیدنا لیث بن سعد کا انتقال اور شب برات

اسی طرح حضرت سیدنا لیث بن سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی شب برات والے دن میں ہوا جیسا کہ روایت میں ہے کہ

وُلِدَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَتَوَفَّى يَوْمَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ مِائَةٍ.

- المعرفۃ والتاریخ از نسوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 444۔

حضرت سیدنا لیث بن سعد رضی اللہ عنہ سنہ چورانوے ہجری میں پیدا ہوئے اور سنہ ایک سو پچھتر ہجری میں شب برات والے دن بروز جمعہ المبارک آپ کا اس جہانِ فانی سے وصال ہوا۔ نیز اسی سلسلہ میں آگے کچھ محدثین کی وفات کے بارے میں بھی بیان آئے گا۔ ان شاء اللہ العزیز

﴿97﴾

تاریخی یونیورسٹی جامعہ الازہر میں دو قدیم سے ہی شب میلاد مصطفیٰ، شب برات اور دیگر مشہور راتوں میں خصوصی اجتماعات انتہائی معتبر اور نامور محدث ابوالحسن محمد بن زین العابدین بن محمد بن علی جو کہ قطب الاقطاب شمس صدیقی المصری کے استاذ محترم تھے، ان اجتماعات میں اپنے اسلاف کے طور طریقوں کے مطابق شب برات میں خصوصی اجتماع سے باقاعدہ ہر سال خطاب فرماتے تھے:

فَكَانَ يَدْرُسُ عَلَى عَادَةِ اسْلَافِهِ فِي الْجَامِعِ الْاَزْهَرِ فِي
الليالي المشهورة كليله المولد والمِعْرَاجِ وَالنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ -

- خلاصہ الاثر ترجمہ ابوالحسن محمد بن زین العابدین -

آپ اپنے اسلاف کے عمل کے مطابق جامعہ الازہر میں مشہور راتوں جیسا کہ شب میلاد مصطفیٰ، شب معراج اور شب برات میں باقاعدہ خطاب کیا کرتے تھے۔

محدثین کے تبصرے

﴿1﴾

شبِ برات پر اعتراض کا تابعی حضرت شریک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

محدث کبیر امام بخاری کے پردادا استاد کا زبردست دندان شکن جواب

عَبَادُ بْنُ عَوَامٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا شَرِيكَ فَسَأَلَنَا عَنْ

الْحَدِيثِ "إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ" قُلْنَا: إِنَّ قَوْمًا

يُنْكِرُونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ. قَالَ: فَمَا يَتَوَلَّوْنَ؟ قُلْنَا يَطْعَنُونَ فِيهَا

فَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ هُمُ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْقُرْآنِ

وَبِأَنَّ الْقُرْآنَ وَبِأَنَّ الصَّلَاةَ خَمْسٌ وَبِحَجِّ الْبَيْتِ وَبِصَوْمِ

رَمَضَانَ فَمَا نَعْرِفُ اللَّهَ إِلَّا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ. إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

- السنن (عبداللہ بن احمد بن حنبل) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273۔ حدیث نمبر 508۔

عباد بن عوام نے کہا کہ حضرت شریک بن عبداللہ (جو کہ تابعی تھے اور مشہور

محدث کبیر امام بخاری کے پردادا استاد تھے) آئے ہم نے ان سے اس حدیث

کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات (شبِ برات) رحمت نازل فرماتا

ہے کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے کہا کہ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں

نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ وہ اس میں طعن کرتے ہیں۔ انہوں نے

کہا کہ بے شک جن لوگوں نے ایسی احادیث مبارکہ پیش کی ہیں یہی لوگ ہیں جو

قرآن لائے ہیں، پانچ نمازیں، حج بیت اللہ اور رمضان شریف کے روزوں کا حکم بیان کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پہچانتے مگر انہی لوگوں کی بیان کردہ احادیث کے ساتھ۔ اس روایت کی اسناد صحیح ہے۔

﴿2﴾

حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت

حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ

خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَأَوَّلُ لَيْلَةِ

الرَّجَبِ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ۔

- سنن کبریٰ (بیہقی) میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319۔

کہ ان پانچ راتوں میں کی جانے والی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی شب جمعہ

، ماہِ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات (شبِ برات) عید الفطر اور

عید الاضحیٰ کی دو راتیں۔

﴿3﴾

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: بَلَّغْنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ

فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ

وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ۔

- کتاب الام کتاب صلاة العیدین باب العبادۃ لیلۃ العیدین۔ (جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264۔)

- آداب الاکل (فقہی) صفحہ نمبر 29-

- شعب الایمان (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341-

- سنن کبریٰ (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319-

- فضائل الاوقات (بیہقی) صفحہ نمبر 312-

- ذیل سنن کبریٰ (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319-

- معرفۃ السنن والاثر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66-

- لطائف المعارف صفحہ نمبر 162-

- التلخیص الحبیر کتاب العیدین-

- روضۃ الطالبین وعمدة المتقین (نووی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172-

- فیض القدر شرح الجامع الصغیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 38-

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ پانچ راتوں میں دعائیں خصوصی طور پر قبول ہوتی ہیں: جمعرات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، ماہِ رجب کی پہلی رات اور نصف شعبان (شب برات) کی رات۔

﴿4﴾

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور فتویٰ

قَالَ إِمَامُ شَافِعِيٍّ: وَأَنَا أَسْتَجِبُّ كُلَّ مَا حَكَيْتَ فِي هَذِهِ

الليالي غَيْرَ أَنْ يَكُونَ فَرَضًا.

- کتاب الام کتاب الصلاة العیدین باب العبادۃ لیلۃ العیدین-

- فضائل الاوقات (بیہقی) تحت حدیث نمبر 151-

(مقدس راتیں ذکر کر کے جن میں شبِ برات بھی شامل ہے) امام شافعی نے فرمایا: ان راتوں میں عمل کرنے کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے میں اسے بہت ہی پسند کرتا ہوں۔ البتہ ان راتوں میں عبادت کرنا فرض نہیں سمجھتا

﴿5﴾

امام اوزاعی کا فتویٰ

لَا يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِيهَا لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ وَهَذَا قَوْلُ
الْأَوْزَاعِيِّ إِمَامِ أَهْلِ الشَّامِ وَفَقِيهِهُمْ وَعَالِمِهِمْ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

۔ فضائل الاشمع تلخیص لطائف المعارف از ابن رجب باب وظائف شھر شعبان۔

اگر شبِ برات میں آدمی تنہا صرف اپنے لئے نماز پڑھے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور یہ قول امام اوزاعی جو کہ اہل شام کے عالم اور ان کے فقیہ تھے اور یہی قول زیادہ اقرب ہے۔ ان شاء اللہ۔

﴿6﴾

حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کا اعلان

وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسُ
لَيَالٍ فِي السَّنَةِ مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ رَجَاءً ثَوَابِهِنَّ، وَ
تَصَدِّقًا بِوَعْدِهِنَّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ: أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ

يَقُومُ لَيْلَهَا وَيَصُومُ نَهَارَهَا، وَلَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ يَقُومُ لَيْلَهُمَا وَيُفْطِرُ
 نَهَارَهُمَا، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَقُومُ لَيْلَهَا وَيَصُومُ نَهَارَهَا
 ، وَلَيْلَةُ عَاشُورَاءٍ يَقُومُ لَيْلَهَا وَيَصُومُ نَهَارَهَا.
 - غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 -

حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سال میں پانچ راتوں پر جس نے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید اور اس کے وعدے پر یقین کر کے ہمیشگی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمادے گا۔ وہ پانچ راتیں یہ ہیں: ماہِ رجب کی پہلی رات کا قیام اور دن کا روزہ رکھنا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دو راتوں کا قیام اور ان کے دنوں میں روزہ نہ رکھنا، نصف شعبان کی رات (شبِ برات) کا قیام اور اس کے دن کا روزہ اور عاشورہ (دس محرم) کی رات کا قیام اور اس کے دن کا روزہ رکھنا۔

﴿7﴾

حضرت فضیل بن فضالہ رضی اللہ عنہ کا تبصرہ

إِنَّ اللَّهَ يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
 فَيُعْطِي رِغَابًا وَيَفُكُّ رِقَابًا وَيَفْخَمُ عِقَابًا.
 - شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ روایت نمبر 600 -

حضرت فضیل بن فضالہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نصف شعبان کی رات (شبِ برات) خصوصی طور پر نازل ہوتی

ہے اعمالِ صالحہ کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے، بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کے عذاب میں کمی بھی فرماتا ہے۔

﴿8﴾

شامی ائمہ کا شبِ برات کے بارے واضح موقف

وَ اَخْتَلَفَتْ عُلَمَاءُ اَهْلِ الشَّامِ فِي صِفَةِ اَحْيَاءِهَا عَلٰى قَوْلَيْنِ
اَحَدُهُمَا : اِنَّهُ يَسْتَجِيبُ اَحْيَانَهَا جَمَاعَةً فِي الْمَسَاجِدِ كَانَ خَالِدُ
بْنُ مَعْدَانَ وَ لُقْمَانُ بْنُ عَامِرٍ وَ غَيْرُهُمَا يَلْبِسُونَ فِيهَا اَحْسَنَ
ثِيَابِهِمْ وَيَتَبَخَّرُونَ وَيَكْتَجِلُونَ وَيَقُومُونَ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَتِهِمْ
تِلْكَ وَ وَاَفْقَهُمْ اِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوِيَهٗ عَلٰى ذٰلِكَ وَقَالَ فِي قِيَامِهَا فِي
الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً لَيْسَ بِبِدْعَةٍ نَقَلَهُ عَنْهُ حَرْبُ الْكِرْمَانِيِّ فِي
مَسَائِلِهِ . وَالثَّانِي : اِنَّهُ يَكْرَهُ الْاجْتِمَاعَ فِيهَا فِي الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ
وَ الْقَصَصِ وَ الدُّعَاءِ وَ لَا يَكْرَهُ اَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِيهَا لِخَاصَّةِ
نَفْسِهِ وَ هَذَا قَوْلُ الْاَوْزَاعِيِّ اِمَامِ اَهْلِ الشَّامِ وَ فِقِيهِهِمْ وَ عَالِمِهِمْ .

لطائف المعارف و طائف شہر شعبان باب المجلس الثاني في نصف من شعبان۔

اہل شام کے علماء نے شبِ برات میں عبادت کرنے کی کیفیت میں دو
قولوں کی بناء پر اختلاف کیا ہے ان میں سے علماء کی ایک جماعت اس بات کے
حق میں ہے کہ اس رات میں مساجد میں جمع ہو کر عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے۔
امام خالد بن معدان اور حضرت لقمان بن عامر اور ان کے علاوہ بھی کئی محدثین

شب برات میں خوبصورت لباس پہنتے، خوشبوئیں لگاتے اور سرمہ لگاتے اور مسجدوں میں قیام (عبادت) کرتے۔ انہیں کی موافقت کی ہے حضرت امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ اور ساتھ ہی واضح بھی کر دیا کہ شب برات میں عبادت بدعت نہیں ہے۔ اور یہ بات امام کرمانی شارح بخاری نے اپنے مسائل میں بھی ذکر کی ہے۔ جب کہ دوسرا گروہ اس رات میں مساجد میں نماز واقعات اور دعا کے اجتماع کو مناسب نہیں سمجھتا البتہ ان کے نزدیک بھی اس بات میں کوئی کراہت نہیں کہ انسان شب برات میں تنہا بطور خاص اپنے لئے نوافل ادا کرے اور یہ قول امام اوزاعی کا ہے جو کہ اہل شام کے امام، ان کے فقیہ اور ان کے عالم تھے۔ (البتہ ان کے درمیان شب برات میں عبادت کرنے میں کوئی اختلاف نہیں)

﴿9﴾

حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح روایت

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ

اللَّهُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا الْمُشْرِكِ أَوْ مُشَاجِنِ.

۔ کنوز السنۃ الدہویہ (صحیح بیہقی) صفحہ نمبر 64۔ باب فضل بعض الايام والالوقات

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی شب اللہ تعالیٰ تمام زمین والوں کی مغفرت فرمادیتا

ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔

﴿10﴾

حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا شبِ برات پر تبصرہ

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کئی محدثین سے شبِ برات کی کئی احادیث نقل فرما کر اپنی ذاتی رائے کے طور پر ان کا بیان پیش فرماتے ہیں کہ:

حَدِيثُ النَّزُولِ قَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَجْهِ صَحِيحَةٍ وَوَرَدَ فِي التَّنْزِيلِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى "وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا وَالنُّزُولُ وَالْمُجِيءُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ بِلَا تَشْبِيهِ جَلَّ عَمَّا يَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ لِصِفَاتِهِ وَالْمَشَبَّهَةُ عُلُوًّا كَبِيرًا.

۔ فضائل الاوقات (بیہقی) تحت حدیث نمبر 29۔

جن احادیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانِ دنیا پر نازل ہوتی ہے یہ صحیح احادیث ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی وجوہ سے ثابت ہیں۔ جب کہ نازل ہونے کے بارے میں تصدیق اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے بھی ہوتی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: "وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا"۔ ترجمہ: "اور آپ کے رب کی خاص رحمت آئے گی اور فرشتے بھی قطار اندر قطار آئیں گے"۔ آسمان سے نازل ہونا اور آنا اگر حرکت کے ساتھ ہو اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا ہو تو ایسی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے منافی ہیں۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو مخلوق کی کسی صفت کے ساتھ نہ تو مماثلت رکھتیں ہیں اور نہ ہی مشابہت۔ جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں بلکہ کسی

کے ساتھ بھی مشابہت دی جائے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے۔

﴿11﴾

حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا شبِ برات پر مزید تبصرہ

فَأَمَّا سَائِرُ الْأُمُورِ الَّتِي تَجْرِي عَلَى يَدِي الْمَلَائِكَةِ مِنْ تَدْبِيرِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا تَبَيَّنَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

- شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319۔

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ واضح فرماتے ہیں کہ جہاں تک تمام معاملات کا تعلق ہے جو کہ فرشتوں کے ہاتھوں پہ زمین والوں کی تدبیر میں سے جاری ہوتے ہیں۔ تو وہ شبِ برات میں واضح ہو جاتے ہیں۔

﴿12﴾

حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (الایة کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيَالِي أَرْبَعَةٌ: لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْعِيدِ.

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340۔

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (اور تیرا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے اور وہ اختیار رکھتا ہے) کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس

سے مراد راتوں میں سے یہ چار راتیں ہیں: شب برات، شب قدر شب جمعہ اور عید کی شب۔

﴿13﴾

حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ

وَقَدْ سُمِّيَتْ لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ لِأَنَّ فِيهَا بَرَاءَتَيْنِ - بَرَاءَةٌ لِلْأَشْقِيَاءِ مِنَ الرَّحْمَنِ وَبَرَاءَةٌ لِلْأَوْلِيَاءِ مِنَ الْخَذْلَانِ -
- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 -

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کا نام شب برات اس لئے رکھا گیا کہ اس میں دو براتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بد بختوں کے لئے رحمت سے بیزاری اور اولیائے کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسوا کرنے سے بیزاری۔

﴿14﴾

شب برات کے متعلق امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان

ذَكَرَ السُّبُكِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهَا تُكَفِّرُ ذُنُوبَ السَّنَةِ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ تُكَفِّرُ ذُنُوبَ الْأَسْبُوعِ ، وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ تُكَفِّرُ ذُنُوبَ الْعُمْرِ
أَيُّ أَحْيَاءٍ هَذِهِ اللَّيَالِي سَبَبٌ لِتَكْفِيرِ الذُّنُوبِ -

- مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 314 -

امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ امام سبکی نے بیان کیا ہے کہ شب برات ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب کہ جمعہ کی رات ایک ہفتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے اور شب قدر زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ان راتوں کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھنا گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔

﴿15﴾

شب برات کے متعلق امام ضیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بیان

قَالَ الْحَافِظُ الضِّيَاءُ: قَدْ جُمِعَ لَهُ مَعْرِفَةُ الْفِقْهِ، وَالْفَرَائِضِ وَالنَّحْوِ، مَعَ الزُّهْدِ وَالْعَمَلِ قَالَ: وَكَانَ لَا يَكَادُ يَسْمَعُ دُعَاءَ الْأَخْفِظَةِ وَدُعَاءِ بِهِ وَلَا يَسْمَعُ الذِّكْرَ صَلَوةً إِلَّا صَلَّاهَا، وَلَا يَسْمَعُ حَدِيثًا إِلَّا عَمِلَ بِهِ. وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي نِصْفِ شَعْبَانَ مِائَةَ رَكْعَةً.

۔ ذیل طبقات حنابلہ (ابن رجب حنبلی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7۔

حافظ امام ضیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کے لئے دینی مسائل کی سمجھ بوجھ، علم میراث، عربی گرامر زہد و تقویٰ جمع فرما دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی بھی دعائی ہو اور وہ مجھے یاد نہ ہوئی ہو اور میں نے وہ دعائہ مانگی ہو، اور کسی بھی نفل نماز کے بارے میں سنا ہو اور میں نے وہ نفل نماز ادا نہ کی ہو اور کوئی بھی ایسی حدیث نہیں جو میں نے سنی ہو اور میں نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ اور امام ضیاء رحمۃ اللہ علیہ نصف شعبان کی شب لوگوں کے ساتھ مل کر سونفل ادا کرتے تھے۔

﴿16﴾

مشہور نقاد اور محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا شب برات

کے موقع پر خطاب

محدث ابن جوزی نے شب برات کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا

عِبَادُ اللَّهِ إِنَّ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ النِّصْفَ (مِنْ شَعْبَانَ) عَظِيمَةً

الْقَدْرِ وَعَجِيبَةً الْوَصْفِ يَطَّلِعُ اللَّهُ فِيهَا عَلَى الْعِبَادِ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ

مَا خَلَا أَهْلَ الْعِنَادِ -

- التمهرة (ابن جوزی) المجلس الخامس في ذكر ليلة النصف من شعبان -

اے اللہ تعالیٰ کے بندو! بے شک تمہاری اس رات میں بہت زیادہ قدر اور

بہت ہی زیادہ خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا

ہے اور سوائے ایک دوسرے سے عناد رکھنے والوں کے سب کی مغفرت فرمادیتا ہے

﴿17﴾

شب برات کے متعلق امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان

فَكُلُّ مَا فِي هَذَا النَّوعِ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ رَاجِعٌ إِلَى التَّرْغِيبِ

والتَّرْهِيْبِ. وَإِذَا جَارَ اعْتِمَادُ مِثْلَهُ جَارَ فِيمَا كَانَ نَحْوَهُ مِمَّا يَرْجِعُ

إِلَيْهِ كَصَلَاةِ الرُّغَائِبِ وَالْمِعْرَاجِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ -

- کتاب الاعتصام (شاطبی) صفحہ نمبر 169 -

امام شاطبیؒ نے کہا کہ ان منقولات میں سے ہر معاملہ ترغیب اور ترہیب کی طرف ثابت ہے اور جب ان جیسی روایات پر اعتماد جائز ہے تو پھر ان اوقات میں عبادات بھی جائز ہیں جیسا کہ صلاۃ الرغائب، شب معراج میں اور نصف شعبان کی رات میں عبادت کرنا۔

﴿18﴾

شب برات کے متعلق امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ

فَمُطْلَقُ التَّنْفِلِ بِالصَّلَاةِ مَشْرُوعٌ فَإِذَا جَاءَ تَرْغِيبٌ فِي صَلَاةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ عَضَدَهُ أَصْلُ التَّرْغِيبِ النَّافِلَةِ.

- کتاب الاعتصام (شاطبی) صفحہ نمبر 170۔

امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مطلق طور پر نفل نماز ادا کرنا شریعت میں ثابت ہے۔ پس جب شب برات کے نوافل میں ترغیب ثابت ہوگئی تو عام نوافل کی ادائیگی کی ترغیب میں بھی یہی چیز معاونت کرتی ہے۔

﴿19﴾

شب برات کے متعلق علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان

فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ آجَالُ الْمَوْتَى فَيَمُتُونَ أَنْاسًا مِنْ دِيْوَانِ الْأَحْيَاءِ وَيُثَبَّتُهُمْ فِي دِيْوَانِ الْأَمْوَاتِ.

- تفسیر روح المعانی سورۃ الرعد آیت نمبر 39۔

علامہ آلوسی روایت کرتے ہیں کہ شبِ برات میں مردوں کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے پس لوگوں کے نام زندوں کے رجسٹر سے نکال دیئے جاتے ہیں اور مردوں کے رجسٹر میں مضبوط کر دیئے جاتے ہیں۔

﴿20﴾

مشہور مفسر زحشری کا شبِ برات پر تبصرہ

يَبْدَأُ فِي اسْتِنْسَاخِ ذَلِكَ مِنَ اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ فِي لَيْلَةِ
الْبَرَاءَةِ وَيَقَعُ الْفَرَاغُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتُدْفَعُ نُسْخَةُ الْأَرْزَاقِ إِلَى
مِيكَائِيلَ وَنُسْخَةُ الْخُرُوبِ إِلَى جِبْرِيلَ وَكَذَلِكَ الرِّزَالِ
وَالصَّوَاعِقُ وَالْخَسَفُ وَنُسْخَةُ الْأَعْمَالِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ صَاحِبِ
سَمَاءِ الدُّنْيَا وَهُوَ مَلَكٌ عَظِيمٌ وَنُسْخَةُ الْمَصَائِبِ إِلَى مَلِكِ الْمَوْتِ
وَعَنْ بَعْضِهِمْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ بَرَكَاتِ أَعْمَالِهِ فَيُلْقَى عَلَى السِّنَةِ
الْخَلْقِ مَدْحَةٌ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ هَيْبَةٌ.

- تفسیر قرطبی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 128 -

- تفسیر السراج المنیر تحت سورۃ الدخان آیت 4 -

- تفسیر روح المعانی تحت سورۃ الدخان آیت 4 -

مشہور تفسیر کشاف کے مفسر زحشری نے واضح کیا ہے کہ لوح محفوظ سے

تنسیخِ شبِ برات کو ہوتی ہے۔ اور اس کے عمل کی تکمیل شبِ قدر کو کی جاتی ہے۔

رزق کا رجسٹر میکائیل کو دیا جاتا ہے، جنگوں کا رجسٹر جبریل علیہ السلام کو دیا جاتا

ہے اور اسی طرح زلزلوں اور آسمانی بجلیوں اور زمین میں دھنسانے اور اعمال کا رجسٹر اسماعیل کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو کہ آسمان دنیا کا نگران ہے۔ اور وہ بہت بڑا فرشتہ ہے۔ مصائب کا رجسٹر ملک الموت کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اور بعض فرشتوں کو ہر عمل کرنے والے کے اعمال کی برکات دی جاتی ہیں۔ اور وہ مخلوق کی زبانوں پر ان کی مدح ڈالتے ہیں۔ اور ان کے دلوں میں ان کی ہیبت ڈالتے ہیں۔

﴿21﴾

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نفیس تبصرہ

عہد حاضر کے عظیم محدث و مفسر علامہ غلام رسول سعیدی حفظہ اللہ تعالیٰ اپنی شہرہ آفاق تفسیر ”تبیان القرآن“ کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 759 مطبوعہ لاہور میں رقم طراز ہیں:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علامہ رجب حبیبی متوفی 795ھ کی لطائف المعارف سے نقل فرماتے ہیں کہ: اہل شام میں ائمہ تابعین مثل خالد بن معدان و امام مکحول و لقمان بن عامر وغیرہم شب برات کی تعظیم اور اس رات عبادت کرنے کی کوشش عظیم کرتے اور انہیں سے لوگوں نے اس کا فضل ماننا اور اس کی تعظیم کرنا اخذ کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے: انہیں اس باب میں کچھ آثار اسرائیلی پہنچی ہیں۔ خیر ان سے جب امر شہروں میں پھیلا تو علماء ان سے مختلف ہو گئے ایک جماعت نے اسے قبول کر لیا اور تعظیم شب برات کے موافق ہوئے۔ ان

میں سے ایک گروہ عابدین بصرہ و اہل بصرہ وغیرہم ہیں اور ان کے اکثر علماء نے اس کا انکار کیا۔ ان میں سے امام عطاء و ابن ابی ملیکہ و عبدالرحمن بن زید بن اسلم فقہائے مدینہ سے ہیں اور یہ قول مالکیہ وغیرہم کا ہے۔ کہ یہ سب نو پیدا ہے۔ علمائے اہل شام اس رات کی شب بیداری کس طرح کی جائے، دو قولوں پر مختلف ہوئے ایک قول یہ ہے کہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ مستحب ہے۔ خالد بن معدان و لقمان بن عامر وغیرہما اکابر تابعین اس رات اچھے کپڑے پہنتے۔ بخور کا استعمال کرتے، سرمہ لگاتے اور شب کو مسجدوں میں قیام فرماتے، امام مجتہد اسحاق بن راہویہ نے بھی اس بارے میں ان کی موافقت فرمائی ہے اٹخ دوسرا قول یہ ہے کہ مساجد میں اس کی جماعت مکروہ ہے اور یہ قول شام کے امام فقیہ و عالم امام اوزاعی کا ہے۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۷ ص ۲۳۳ طبع جدید لاہور لطائف المعارف ج ۱ ص ۲۲۷-۲۲۶ مکتبہ نزار

مصطفیٰ مکہ مکرمہ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا متوفی ۱۳۴۰ھ مراقی الفلاح شرح نور الایضاح

سے نقل فرماتے ہیں:

اہل حجاز میں سے اکثر علماء نے اس کا انکار کیا ہے، ان میں سے ہیں: امام

عطاء و ابن ابی ملیکہ و فقہاء مدینہ اور اصحاب مدینہ اور اصحاب امام مالک وغیرہم۔ یہ

علماء کہتے ہیں: یہ سب نو پیدا ہے۔ نہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدین کی

دونوں راتوں کی باجماعت شب بیداری منقول ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے مروی ہے

اور علماء شام بیداری شب برات میں کہ کس طرح کی جائے دو قول پر مختلف ہوئے:
ایک قول یہ ہے کہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ بیداری مستحب ہے۔ یہ قول اکابر
تابعین مثل خالد بن معدان اور لقمان بن عامر کا ہے۔ امام مجتہد اسحاق بن راہویہ نے
بھی اس بارے میں ان کی موافقت فرمائی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مساجد میں اس کی
جماعت مکروہ ہے، یہ قول اہل شام کے امام و فقیہ و عالم امام اوزاعی کا ہے۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۷ ص ۲۳۲ طبع جدید لاہور، حاشیہ الطحاوی علی مرآتی الفلاح، ص ۲۲۰، ۲۱۹، طبع کراچی)
بر صغیر میں معمول یہ ہے کہ شب برات صلوٰۃ التسبیح باجماعت پڑھی جاتی
ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ ہے، اعلیٰ حضرت نے
باحوالہ لکھا ہے کہ یہ کراہت تحریمی نہیں ہے۔ صرف تنزیہی ہے اور اگر دوام کے
ساتھ نوافل کی جماعت نہ کرائی جائے تو پھر یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے اعلیٰ
حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اس مسئلہ کی اصل یہ ہے کہ جب نوافل کی جماعت علی سبیل التداوی ہو
تو صدر شہید کی ”اصل“ میں ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر مسجد کے گوشے میں بغیر
اذان و تکبیر نفل کی جماعت ہوئی تو کراہت نہیں اور شمس الائمہ حلوانی نے فرمایا کہ
اگر امام کے علاوہ تین افراد ہوں تو بالاتفاق کراہت نہیں۔ اور اگر مقتدی چار
ہوں تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے اور اصح کراہت ہے۔ (ت)

۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۷ ص ۲۳۱ طبع جدید خلاصۃ الفتاویٰ ج ۱ ص ۱۵۴، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

پھر اظہر یہ ہے کہ یہ کراہت صرف تنزیہی ہے یعنی خلاف اولیٰ لمخالفة

التوارث (کیوں کہ یہ طریقہ توارث کے خلاف ہے) نہ کہ تحریمی کہ گناہ و ممنوع ہو ردالمحتار میں ہے۔

”حلیہ“ میں کہ ظاہر یہی ہے کہ نفل جماعت مستحب نہیں، پھر اگر کبھی کبھی ایسا ہو تو یہ مباح ہے مکروہ نہیں اور اس میں دوام ہو تو طریقہ متوارث کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعت مکروہہ ہے اھ کی تائید بدائع کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ جماعت قیام رمضان کے علاوہ نوافل میں سنت نہیں اھ کیوں کہ نفی سنت کراہت کو مستلزم نہیں پھر اگر اس میں دوام ہو تو یہ بدعت و مکروہ ہوگی خیر رملی نے حاشیہ بحر میں کہا کہ ضیاء اور نہایہ میں کراہت کی علت یہ بیان کی ہے کہ وتر من وجہ نفل ہیں اور نوافل کی جماعت مستحب نہیں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رمضان کے علاوہ وتر کی جماعت نہیں کرائی اھ یہ گویا اس بات کی تصریح ہی ہے کہ جماعت مکروہ تزیہی ہے تامل اھ اختصاراً۔ (ت)

(فتاویٰ رضویہ ج ۷ ص ۲۳۱-۲۳۲ ردالمحتار ج ۲ ص ۲۳۷-۲۳۶، دار احیاء التراث العربی بیروت)

نَبِيُّ يَدِي مَا لَا يَدِي النَّاسُ حَوْلَهُ
وَيَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ
وَإِنَّ قَالًا فِي يَوْمٍ مَقَالَةٌ غَائِبٍ
فَتَصْدِيقُهَا فِي الْيَوْمِ أَوْ ضَحَى الْغَدِ

مشاہیر و ناقدین کے تبصرے

﴿1﴾

شب برات کے متعلق غیر مقلدین کے ممدوح ابن تیمیہ کا بیان
 مِمَّا نَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِي ثُلُثِ
 اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَبْسُطُ يَدَهُ فَيَقُولُ أَأَهْلٌ مِّنْ سَائِلٍ. الْحَدِيثُ
 وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَعَشِيَّةُ عَرَفَةَ وَذَكَرَ الْحَدِيثُ.
 - العقيدة الحموية (ابن تیمیہ) صفحہ نمبر 55۔

- مجموع الفتاوی (ابن تیمیہ) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 77۔

ہمارے عقائد میں سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری
 تیسرے پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور دستِ کرم پھیلا کر ارشاد فرماتا
 ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا؟۔ الحدیث۔ اور نصف شعبان کی شب (شب
 برات) اور نویں ذوالحج کی رات اور پھر مکمل حدیث بیان کی۔

﴿2﴾

شب برات کے متعلق غیر مقلدین کے ممدوح ابن تیمیہ کا باقاعدہ فتویٰ
 وَسُئِلَ عَنْ صَلَاةِ نِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ؟
 الْجَوَابُ: إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ لَيْلَةَ النِّصْفِ وَخَدَهُ أَوْ فِي
 جَمَاعَةٍ خَاصَّةٍ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ طَوَائِفٌ مِنَ السَّلَفِ فَهُوَ أَحْسَنُ.

وَأَمَّا الْاجْتِمَاعُ فِي الْمَسَاجِدِ عَلَى صَلَاةٍ مُقَدَّرَةٍ، كَالْاجْتِمَاعِ عَلَى مِائَةِ رَكْعَةٍ بِتِرَاءِ-ةِ الْفِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ دَائِمًا. فَهَذَا بَدْعَةٌ لَمْ يَسْتَحِبَّهَا أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- مجموع الفتاوى (ابن تیمیہ) جزء نمبر 23 صفحہ نمبر 131۔

- الفتاوى الكبرى (ابن تیمیہ) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262۔ طبع دار المعرفۃ بیروت

- کتاب اخصر المختصرات (محمد بن بدرالدین بن عبدالقادر) صفحہ نمبر 214۔

نصف شعبان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا

جواب: جب کوئی شخص نصف شعبان کی شب (شبِ برات) میں تنہا نفل

پڑھے یا مخصوص جماعت میں پڑھے جیسا کہ اسلاف کے گروہ پڑھتے رہے ہیں

تو یہ عمل اچھا ہے۔ اور جہاں تک مسجدوں میں کسی مقررہ نماز کی بات ہے جیسا کہ

سورکعت پر ایک ہزار مرتبہ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" پر ہمیشہ اجتماع کرنا ہے تو

یہ (ہمیشہ کے لئے ایسا کرنا) بدعت ہے جس کو ائمہ کرام میں سے کسی نے بھی پسند

نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔

﴿3﴾

غیر مقلدین کے مدوح ابن تیمیہ کا تفصیلی بیان

وَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ وَالْأَثَارِ

مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا لَيْلَةٌ مُفْضَلَةٌ وَأَنَّ مَنْ كَانَ يَخُصُّهَا بِالصَّلَاةِ

فِيهَا. وَصَوْمُ شَهْرِ شَعْبَانَ قَدْ جَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثٌ صَحِيحَةٌ.

وَمِنْ عُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْخَلْفِ مَنْ
 أَنْكَرَ فَضْلَهَا. وَطَعَنَ فِي الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهَا كَحَدِيثِ إِنْ اللَّهَ
 يَغْفِرُ فِيهَا لِأَكْثَرِ مَنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ بَنِي كَلْبٍ وَقَالَ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا
 وَبَيْنَ غَيْرِهَا لِكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْ أَكْثَرُهُمْ مِنْ
 أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ عَلَى تَفْضِيلِهَا وَعَلَيْهِ يَدُلُّ نَصُّ أَحْمَدَ لِتَعَدُّدِ
 الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهَا وَمَا يُصَدِّقُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَارِ السَّلَفِيَّةِ وَقَدْ
 رَوَى بَعْضُ فَضَائِلِهَا فِي الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ وَإِنْ كَانَ قَدْ وُضِعَ
 فِيهَا أَشْيَاءٌ آخَرٌ.

۔ اقتضاء الصراط المستقيم (ابن تیمیہ) صفحہ نمبر 302۔ (مطبعة السنة المحمدية القاہرہ)

شب برات کی فضیلت میں بہت سی مرفوع احادیث اور آثار صحابہ بھی اس
 بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یقیناً یہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو جس نے بھی
 نوافل اور ماہ شعبان کو روزہ کے ساتھ خاص کیا۔ تو اس میں صحیح احادیث وارد
 ہیں۔ امصار میں سے کچھ لوگوں نے اور ان کے علاوہ خلف میں سے بھی کچھ نے اس
 کی فضیلت کا انکار کیا ہے اور وارو کی گئی احادیث مثلاً بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں
 قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرمادیتا ہے،
 کہا ہے کہ ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ لیکن بہت سے اہل علم یا ہمارے اصحاب
 میں سے بہت سے اہل علم اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ جو کہ تصدیق کرتی
 ہیں سلف کے آثار کی اور شب برات کی فضیلت میں احادیث مسانید اور سنن کتابوں

میں موجود ہیں اگرچہ ان میں کچھ دیگر بیانات بھی شامل کر دیئے گئے ہیں۔

﴿4﴾

غیر مقلدین کے مدوح ابن تیمیہ کا تیسرا بیان

وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَبِهَا فَضْلٌ وَكَانَ فِي

السَّلَفِ مَنْ يُصَلِّي فِيهَا.

۔ الفتاویٰ النبروی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 342۔ (دار المعرفۃ بیروت)

۔ الاختیارات العلمیہ صفحہ نمبر 58۔

جہاں تک نصف شعبان کی شب (شبِ برات) کی بات ہے اس میں

بہت فضیلت ہے۔ اسلاف شبِ برات میں نماز پڑھتے رہے ہیں۔

﴿5﴾

غیر مقلدین کے علامہ ابن قیم جوزی کا تبصرہ

وَمِمَّا نَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فِي ثُلُثِ

الْأَخِيرِ فَيَبْسُطُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلِ الْحَدِيثِ وَلَيْلَةُ

النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَعَشِيَّةُ عَرَفَةَ.

۔ اجتماع الجيوش الاسلامیہ ابن قیم صفحہ نمبر 176۔

ابن قیم جوزی نے بھرپور انداز میں واضح کر دیا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں آسمان دنیا پر اپنی رحمت کا نزول

فرماتا ہے اور اپنی رحمت کا دامن وسیع کر کے ارشاد فرماتا ہے ہے کوئی سوال

کرنے والا الحدیث اور اسی طرح شب برات میں بھی اور شب عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔

﴿6﴾

غیر مقلدین کے پیشوا ناصر الدین البانی کا شب برات کی

روایت کو صحیح قرار دینا

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ -

- صحیح الترغیب والترہیب (البانی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 + جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33 (البانی: حسن صحیح)
- السلسلۃ الصحیحۃ صحیح از ناصر الدین البانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 86۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ اور مشرک اور مشاحن کے سوا سب کی مغفرت فرمادیتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

﴿7﴾

ناصر الدین البانی کا شب برات کی دوسری روایت کو صحیح قرار دینا

يَطَّلِعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ

شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ-

الصحیحہ (البانی) حدیث نمبر 1144 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شبِ برات کو اپنی مخلوق کی طرف خصوصی طور پر توجہ فرماتا ہے اور سوائے مشرک اور کینہ پرور کے اپنی سب مخلوق کی مغفرت فرمادیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

﴿8﴾

ناصر الدین البانی کا شبِ برات کی تیسری روایت
کو صحیح قرار دینا

عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ
الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى
السَّمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ نَفْسٍ
إِلَّا إِنْسَانَ فِي قَلْبِهِ شُحْنَاءٌ أَوْ مُشْرِكٍ بِاللَّهِ عَدَّوَجَلَّ-

غلال الجہتہ تخريج السنن لابن ابی عاصم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262 (البانی: صحیح لغیرہ) المکتب الاسلامی بیروت

حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ اپنے چچا اور دادا (حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شبِ برات کو آسمانِ دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور سوائے مشرک اور جس کے دل میں کینہ ہو سب کی مغفرت فرمادیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے۔

﴿9﴾

ناصر الدین البانی کا شب برات کی چوتھی روایت کو صحیح قرار دینا

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ
اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا
لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاجِنٍ.

۔ السلسلۃ الصحیحۃ المختصرۃ (البانی) روایت نمبر 1144 + 1563۔ مطوعہ مکتبۃ

المعارف الریاض

۔ السلسلۃ الصحیحۃ (البانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135۔ (صحیح)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
والہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پندرہ شعبان کی شب کو اپنے بندوں
کی طرف توجہ فرماتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے سب کی بخشش فرمادیتا ہے
یہ حدیث صحیح ہے۔

﴿10﴾

ناصر الدین البانی کا شب برات کی پانچویں روایت کو صحیح قرار دینا

عَنْ أَبِي الثَّغْلَبَةِ الْخُسَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَطَّلَعَ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ
فَيَغْفِرُ لِمُؤْمِنِينَ وَيُعَلِّي لِلْكَافِرِينَ وَيَدْعُ أَهْلَ الْحَقْدِ بِحَقْدِهِمْ
حَتَّى يَدْعُوهُ.

۔ السلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135۔ (البانی: صحیح) مکتبۃ المعارف بیروت

۔ صحیح الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 34۔ (البانی: صحیح لغیرہ)

۔ ظلال الجہنمہ تخریج السنۃ لابن ابی عاصم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264۔ (البانی: صحیح)

حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ

والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پندرہ شعبان آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی

طرف توجہ فرماتا ہے اور مومنوں کے لئے مغفرت فرماتا ہے اور کافروں کے لئے

جہنم بھرتا ہے اور وہ کینہ پروروں کو ان کا کینہ دور کرنے لئے بلاتا ہے۔ یہاں تک

کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ٹھتے ہیں اور اپنا کینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

﴿11﴾

غیر مقلدین کے علامہ ثناء اللہ امرتسری کا تبصرہ

نوٹ: شب برات کا اس دور میں سب سے زیادہ انکار کرنے والوں کے

روح رواں ثناء اللہ امرتسری صاحب نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ

”شب برات کو کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے۔“

۔ فتاویٰ ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65۔

﴿12﴾

غیر مقلدین کے علامہ عبدالرحمن مبارک پوری کا تبصرہ

شب برات کے نام کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ

هِيَ اللَّيْلَةُ الْخَامِسَةُ عَشْرَمِنْ شَعْبَانَ وَتُسَمَّى لَيْلَةَ الْبَرَاءَةِ۔

تحفة الاحوذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 364۔

ترجمہ: ماہ شعبان کی پندرہویں رات کا نام شب برات ہے۔

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ

إِعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عِدَّةُ
أَحَادِيثٍ مَجْمُوعًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا أَصْلًا.

تحفة الاحوذی جلد نمبر 3 صفحہ 365۔

خوب جان لو کہ نصف شعبان کی شب (شب برات) کی فضیلت میں
بڑی تعداد میں احادیث وارد ہوئی ہیں جن کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ
شب برات کی اصل ہے۔

﴿13﴾

غیر مقلدین کے علامہ عبدالرحمن مبارک پوری کا فتویٰ

اس سے آگے شب برات کی فضیلت میں کئی احادیث بیان کر کے اپنا
فیصلہ دیتے ہیں کہ:

فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ
يُنْبُتْ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ.

تحفة الاحوذی جلد نمبر 3 صفحہ 367۔

ترجمہ: جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ شب برات کی فضیلت میں کچھ بھی ثابت
نہیں ہے یہ تمام احادیث ایسے شخص کے خلاف حجت ہیں۔

﴿14﴾

غیر مقلد عبداللہ روپڑی کا تبصرہ

بابائے غیر مقلدیت عبداللہ روپڑی شب برات پر اپنا تبصرہ لکھتے ہیں کہ شب برات کا روزہ رکھنا افضل ہے چنانچہ مشکوٰۃ وغیرہ میں حدیث شریف موجود ہے اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل درست ہے۔

- فتاویٰ اہل حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218۔

(اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حدیث کو صرف ضعیف کہا ہے موضوع یا من گھڑت نہیں کہا وگرنہ کسی نے کیا باگاڑ لینا تھا)

﴿15﴾

اہل تشیع کے ہاں شب برات کی اہمیت

مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَأَلْفَ عُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَقَضَيْتَ لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

- مرآة الرشد صفحہ نمبر 113 (حاشیہ)۔

- اصول مذہب الشیخ الاسلامیۃ الاثنی عشریۃ عرض و نقد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1032۔

جس نے شب برات، عید الفطر کی شب اور شب عرفہ میں ایک ہی سال

میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کی اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک ہزار حج مبرور اور ایک ہزار قبول شدہ عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا اور اور دنیا و آخرت کی اس کی ایک ہزار حاجات کو پورا فرمادے گا۔

﴿16﴾

اہل تشیع کی ایک اور روایت

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا يُونُسُ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مَنْ رَزَا الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَمَا تَأَخَّرَ. وَقِيلَ لَهُمْ: اسْتَقْبِلُوا الْعَمَلَ قَالَ: قُلْتُ هَذَا كُلُّهُ لِمَنْ رَزَا الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ؟ فَقَالَ يَا يُونُسُ لَوْ أَخْبَرْتُ النَّاسَ بِمَا فِيهَا لِمَنْ رَزَا الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقَامَتْ ذُكُورَ الرَّجَالِ عَلَى الْخَشَبِ.

- وسائل الشیعة (محمد بن حسن بن علی الحر العالی الاخباری) جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 470۔

- تاریخ آل زرارہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔

- اختیار معرفۃ الرجال للطوسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346۔

- احادیث صحیح بھاشیہ (عبدالرحمن محمد سعید دمشقی) صفحہ نمبر 468۔

یونس بن یعقوب سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اے یونس مومنوں میں سے جو بھی شب برات میں حضرت امام حسین

رضی اللہ عنہ کی (قبر مبارک کی) زیارت کا اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ عمل کے لئے آگے بڑھو۔ یونس بن یعقوب نے کہا کہ یہ ہر اس شخص کے لئے ہے جو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کرے گا؟۔ انہوں نے کہا کہ اے یونس اگر میں لوگوں کو حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کا اجر بتا دوں تو لوگ لکڑیوں کے سہارے بھی زیارت کریں گے (لڑائیوں کا بھی سامنا کریں گے لیکن زیارت ضرور کریں گے)۔

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا
لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُهَّالِ مَالٌ
فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ
وَأَنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لِأَزْوَالٍ

وہ محدثین کرام جن کی ولادت شب برات میں ہوئی

- 1: سفیان بن عیینہ مولود 107 ھ
- الثقات ابن حبان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 403۔
- معجم المؤلفین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 235۔
- مشاہیر علماء الامصار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149۔
- 2: محمد بن بدر بن غصن ازدی مولود 310 ھ
- الصلۃ الجزء الثامن۔
- 3: ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن بن عثمان الخولانی مولود 330 ھ
- الصلۃ الجزء الخامس۔
- 4: احمد بن سلیمان بن علی بن عمران مولود 362 ھ
- تاریخ بغداد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 180۔
- 5: محمد بن حسین بن محمد بن سعدون مولود 367 ھ
- تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255۔
- 6: حاتم بن عبدالرحمن بن حاتم التمیمی ابن الطرابلسی مولود 378 ھ
- الصلۃ الجزء الثالث۔
- 7: قاضی محمد بن علی بن ودعان مولود 401 ھ
- لسان المیزان جلد 5 نمبر صفحہ نمبر 305۔
- 8: ابونصر محمد بن علی ابن ودعان مولود 402 ھ

- سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 164 -
- 9: ابوالفتح الحنفی نصر بن احمد مولود 419ھ
- التحفہ فی المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 -
- 10: ابوالفرج المری مولود 432ھ
- ابن عساکر جلد نمبر 49 صفحہ نمبر 363 -
- 11: قاضی عیاض بن موسیٰ مولود 474ھ
- وفيات الاعیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 485 -
- 12: ابو محمد بن عبدالرحمن بن علی مولود 497ھ
- اکمال الکمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280 -
- 13: عبدالوہاب بن ازہر مولود 556ھ
- ذیل تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 -
- 14: احمد بن اسحاق بن احمد بن ابراہیم مولود 601ھ
- المنہل الضافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 -
- 15: ابو عبداللہ محمد بن سلیمان بن الحسن البلیخی مقدسی 611ھ
- معجم المؤلفین جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 49 -
- 16: سلیمان بن ہمام سمهودی مولود 658ھ
- معجم المؤلفین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 277 -
- 17: شعبان بن محمد الموصلی مولود 765ھ
- معجم المؤلفین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 300 -
- الضوء الملامع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173 -

18: خالد محمد الفرّج الفارقی جمال الدین مولود 815ھ
- معجم المؤمنین جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 90۔

19: محمد بن احمد بن محمد بن عبدالقادر الموصلی مولود 837ھ
- الضوء اللامع جلد 3 نمبر صفحہ نمبر 402۔

20: محمد بن عمر بن مبارک الحمیری مولود 869ھ
- النور السافر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77۔
- الضوء اللامع جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 229۔

21: مصطفیٰ بن محمد عزمی زادہ مولود 977ھ
- خلاصۃ الاثر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176۔

22: حسین الصیادی مولود 1096ھ
- معجم المؤمنین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 17۔

23: لطف اللہ حجاب مولود 1189ھ
- معجم المؤمنین جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 153۔

وَاللّٰهُ اَكْرَمُنَابِهٖ وَهَدٰى بِهٖ
اَنْصَارَهٗ فِى كُلِّ سَاعَةٍ مَّشٰهَدِ
صَلٰى الْاِلٰهَ وَمَنْ يُحْفُ بِعَرْشِهٖ
وَالطَّيِّبُونَ عَلَى الْمُبَارِكِ اَحْمَدِ

وہ محدثین کرام جن کی وفات شب برات میں ہوئی

1: لیث بن سعد متوفی 175 ھ

- طبقات الفقہاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78-

- تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226-

- ابن عساکر جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 378-

- الثقات ابن حبان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 306-

2: ابواسحاق عیسیٰ بن یونس متوفی 188 ھ

- ابن عساکر جلد نمبر 48 صفحہ نمبر 44-

- تاریخ بغداد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 155-

- مغانی الاخیار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 6-

3: یحییٰ بن سعید بن ابان متوفی 194 ھ

- تاریخ بغداد جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 134-

- تہذیب الکمال جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 322-

4: مکی بن ابرہیم متوفی 215 ھ

- ابن عساکر جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 244-

- مغانی الاخیار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 88-

- الثقات ابن حبان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 527-

- تہذیب الکمال جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 482-

(نوٹ: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جن 22 ثلاثیات پر فخر تھا ان میں سے 11 حضرت مکی بن ابرہیم رحمۃ اللہ

علیہ نے ہی انہیں عطا فرمائی تھیں اور حضرت مکی بن ابرہیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے)

- 5: محمد بن معاذ بن عبد الحمید الدمشقی 215ھ
 - الثقات ابن حبان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 69۔
 - ابن عساکر جلد نمبر 56 صفحہ نمبر 11۔
- 6: اسحاق بن راہویہ متوفی 238ھ
 - ابن عساکر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 124۔
 - وفیات العیان 1 جلد نمبر صفحہ نمبر 200۔
- 7: اسحاق بن ابراہیم الحفظی متوفی 238ھ
 - ابن عساکر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 141۔
 - تاریخ بغداد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 354۔
- 8: ابو عثمان البغدادی سعید بن مروان الرهاوی متوفی 252ھ
 - تہذیب الکمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 56۔
- 9: فضل بن احمد المعتمد علی اللہ عباسی حکمران متوفی 258ھ
 - ابن عساکر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 142۔
- 10: بادشاہ فضل بن احمد بن معتمد علی اللہ بن جعفر متوکل علی اللہ 258
 - ذیل تاریخ بغداد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 142۔
- 11: سلیمان بن سیف بن یحییٰ متوفی 272ھ
 - الثقات ابن حبان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 281۔
- 12: ابو العباس احمد بن علی الابار التمشی متوفی 290ھ
 - ابن عساکر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 75۔
 - تاریخ بغداد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 308۔

- معجم المؤمنین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23-

13: محمد بن عمر بن خیرون المعافری الاندلسی متوفی 306ھ

- معجم المؤمنین جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 82-

- طبقات حنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19-

- غایۃ النہایۃ فی طبقات القراء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372- راوی نمبر 3233

14: ابو محفوظ معروف بن القیر وانی الکرخی متوفی 340ھ

- مغانی الاخیار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 465-

15: ابوالحسن اسحاق بن عبدالقدوس متوفی 345ھ

- تاریخ بغداد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 398-

16: ابوالغنائم محمد بن محمد بن احمد بن منصور متوفی 462ھ

- ابن عساکر جلد نمبر 55 صفحہ نمبر 198-

17: ابوالحسن بن محمود المعروف 519ھ

- التخمیر فی المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89-

18: ابوقاسم الخضر بن الحسین بن عبداللہ اندلسی مشقی 543ھ

- التخمیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31-

19: ابوالحسن البغوی علی بن ابی بکر الحسن 544ھ

- التخمیر فی المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90-

20: ابوالقاسم علی بن ابراہیم 547ھ

- ذیل تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10-

21: ام الفتح فاطمہ بنت ابی عمرو الفضل بن احمد المروزیہ متوفیہ 556ھ

- التحمیر فی المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158۔
- 22: ابوالفتح متوفی 560ھ
- ابن عساکر جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 324۔
- 23: امیر مکیں الدولہ حمید متوفی 564ھ
- ابن عساکر جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 301۔
- 24: ابو غالب عبید اللہ بن ہبۃ اللہ بن الاصابیحی 585ھ
- ذیل تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108۔
- 25: الملک الصالح ایوب ابن محمد ابن عادل متوفی 647ھ
- سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 192۔
- 26: نجم الدین ایوب بن الملک الکامل متوفی 647ھ
- سمط النجوم العوالی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289۔
- 27: ابو العباس احمد بن عفاف الموشی متوفی 744ھ
- الوفيات لابن رافع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47۔
- 28: جمال الدین ابو محمد عبداللہ ابن قاضی ابوالحسن علی بن عثمان 769ھ
- الوفيات لابن رافع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88۔
- 29: محمد بن احمد بن عثمان التستری متوفی 785ھ
- الدرر الكامنه صفحہ نمبر 458۔
- 30: ابوبکر بن احمد بن عمر مولود متوفی 801ھ
- انباء الغمر بابناء العمر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225۔
- 31: حسین بن علی بن ابی بکر بن سعاده الفارقی الزبیدی متوفی 801ھ

۔ الضوء اللامع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73۔

32: ابوالحسن عبید اللہ بن الحسین الکرخی متوفی 840ھ

۔ تاج التراجم فی طبقات الحنفیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13

33: امیر حسن بن محمد الامیر ابوالفوارس المعروف ابن الاعوج متوفی 1009ھ

۔ خلاصۃ الاثر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345۔

34: عبداللہ بن عبدالکریم الخلیفی متوفی 1154ھ

۔ سلک الدرر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 433۔

يَا بَكَرَ آمِنَةَ الْمُبَارَكِ بِكَرْهَا
 وَلَدَتُهُ مُحْصَنَةً بِسَعْدِ الْأَسْعَدِ
 نُورًا أَضَاءَ عَلَى الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا
 مَنْ يُهْدَى لِلنُّورِ الْمُبَارَكِ يَهْتَدِ
 يَا رَبِّ فَاجْمَعْنَا مَعًا وَنَبِيَّنَا
 فِي جَنَّةِ تَتْنِي عِيُونَ الْحُسَيْدِ

شب برات کے موضوع اور فضائل پر محدثین کی لکھی گئیں

مشہور کتب کے نام

- 1: ما ورد فی لیلة النصف من شعبان
ابوبکر محمد بن الحسین بن عبداللہ آجری متوفی 360ھ
- الاعلام للزرکلی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 97۔
- 2: شرح لیلة النصف من شعبان
مصنف علی بن ابراہیم الملقب نورالدین بن برہان الدین حلبی متوفی 1044ھ
- خلاصۃ الاثر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔
- 3: فضل لیلة النصف من شعبان
مصنف عبدالرؤف بن تاج العارفین بن علی الحدادی المناوی متوفی 1031ھ
- خلاصۃ الاثر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78۔
- 4: فضائل لیلة النصف من شعبان
مصنف ابوالنجان ناصر الدین ابن عزالدین متوفی 1015ھ
- معجم المؤلفین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 204۔
- 5: فضائل لیلة النصف من شعبان
مصنف جمال بن عمر کی متوفی 1284ھ
- معجم المؤلفین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153۔
- حدیث العارفین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137۔

- ایضاح المکنون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198۔

6: فضائل لیلة النصف من شعبان

مصنف زین العابدین بن محمد بن عبداللہ العباسی خلیفتی متوفی 1130ھ
- معجم المؤلفین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 197۔

7: فضائل لیلة النصف من شعبان

مصنف ابوالسرور محمد توفیق بن علی بن محمد البکری مولود 1287ھ
- معجم المطبوعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 581۔

8: مختصر فی فضل لیلة النصف من شعبان

مصنف ابوالسرور بن محمد متوفی 1007ھ
- خلاصۃ الاثر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74۔
- دیوان الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22۔

9: فیض المنان فی شرح فضل فی لیلة النصف من شعبان

مصنف عبدالخالق البکری المصری 1007ھ
- معجم المؤلفین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 208۔
- حدیث العارفین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129۔
- ایضاح المکنون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216۔

10: تحفة الیقظان فی لیلة النصف من شعبان

مصنف منصور الطیلباوی سبط الشیخ ناصر الدین الشافعی 1014ھ
- الاعلام للزورکی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 300۔
- حدیث العارفین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 699۔

- ایضاح المکنون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263۔

11: فتح الرحمن فی فضل لیلة النصف من شعبان

مصنف حسن شرشر السری الشافعی

- ایضاح المکنون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164۔

12: شرح فتح الرحمن فی فضل النصف من شعبان

مصنف حسن شرشر السری الشافعی

- معجم الموفین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230۔

- معجم المطبوعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1114۔

13: نصیحة اهل الايمان فی فضل لیلة النصف من شعبان

مصنف رجب بن محمد بن العمرانی الشافعی مطبوعہ 1119ھ

- ایضاح المکنون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 653۔

- ہدایۃ العارفین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔

14: عقود الجمان الکافلة ببيان فی فضل النصف من شعبان

مصنف محمد بسرہ المنز لاوی 1313ھ

- معجم الموفین جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 102۔

15: منح المنان بفضائل النصف من شعبان

مصنف ابراہیم بن علی بن الحسن المصری المعروف بالسقامتونی 1298ھ

- ہدایۃ العارفین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22۔

16: باقة الريحان فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان

مصنف محمد بن محمد اللبان الاسكندري الشافعي

- معجم المؤلفين جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 261-

- معجم المطبوعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1586-

17: عقد المرجان في فضل ليلة النصف من شعبان

مصنف نوح بن مصطفى القونوي 1070ھ

- هدية العارفين جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207-

- ايضاح المكنون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110-

18: بهجة الاخوان في فضل ليلة النصف من شعبان

مصنف محمد بن عبد الرحمن بن عبيد المحلى المفتي

- ايضاح المكنون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199-

- معجم المطبوعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1303-

19: افاضة المنان في تشر فضائل ليلة النصف من شعبان

مصنف الخليفة زين العابدين محمد بن عبد الله العباسي الخطيب 1130ھ

- هدية العارفين جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112-

20: هداية المنان في فضائل ليلة النصف من شعبان

از ابوالارشاد علي بن زين العابدين بن محمد بن عبد الرحمن الاجهوري 1066ھ

- هدية العارفين جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403-

- ايضاح المكنون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 723-

21: التبیان فی بیان ما فی لیلة النصف من شعبان

مصنف ملا علی قاری متوفی 1014ھ۔

۔ ہدایۃ العارفین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400۔

22: عرائس الحسان فی شرح فی شرح فضائل لیلة النصف من شعبان

مصنف السید حسین بن سلیم الدجانی الیافی متوفی 1274ھ

۔ ایضاً المکنون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97۔

۔ ہدایۃ العارفین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔

23: مواہب الکریم المنان فی الکریم علی لیلة النصف من شعبان

مصنف غیظی محمد بن احمد بن علی السکندری نجم الدین المصری الشافعی 981ھ

۔ ہدایۃ العارفین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80۔

24: هطال و ابل الامتنان فیم یقال لیلة النصف من شعبان

مصنف قطب الدین بن مصطفیٰ بن کمال الدین متوفی 1162ھ

۔ ہدایۃ العارفین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183۔

25: الدر العالی الشان علی لیلة النصف من شعبان

مصنف احمد بن محمد السجستانی الحسنی متوفی 1178ھ

۔ معجم المطبوعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1012۔

26: تحلیۃ الشبعان فی ما روی فی لیلة النصف شعبان

مصنف از شمس الدین محمد بن طولون دمشقی متوفی 953ھ

۔ کشف الظنون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379۔

27: تحفة اهل التوحيد والايمن بادعية ليلة النصف من شعبان

مصنف عبد السلام بن عبد الرحمن الشطبي الحنبلي

- معجم المؤلفين جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226-

28: رسالة في ليلة النصف من شعبان

مصنف سالم بن محمد عز الدين المصري متوفى 1015ھ

- خلاصة الاثر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 446-

29: رسالة في ليلة النصف من شعبان

مصنف عبد الغنى بن عبد الواحد الجمال المصري متوفى 1284ھ

- الاعلام للزرکلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134 - جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 285-

30: رسالة في ليلة النصف من شعبان

مصنف ابوالنجا مصري المالکی 1015ھ

- هدایة العارفين جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199-

31: مؤلف في ليلة النصف من شعبان

مصنف منصور سبط شيخ الاسلام ناصر الدين الطبري متوفى 1014ھ

- خلاصة الاثر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199-

32: نبذة في فضائل النصف من شعبان

از ابوالحسن علی بن جلال الدین محمد بن عبد الرحمن البکری الشافعی 952ھ

- معجم المؤلفين جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 208-

- هدایة العارفين جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 396-

شبِ برات اور اس کے نوافل کے دلائل

شبِ برات میں تمام تر وقت عبادتِ الہی میں ہی گزرنا چاہئے جس طرح بھی ممکن ہو۔ نفلِ نوافل، ذکرِ اذکار، درود و سلام اور تلاوتِ قرآن پاک الغرض جو بھی ممکن ہو سکے۔ تاہم قارئین کی سہولت کے لئے ہم نے کچھ نوافل وغیرہ درج کر دیئے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ شبِ برات بسر کر سکیں۔

﴿1﴾

شبِ برات میں عبادتِ الہی سے قبل غسل کرنا سنت ہے

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَانِي حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَأَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ. ثُمَّ خَرَجَ مُسْرِعًا فَخَرَجْتُ فِي أَثَرِهِ فَإِذَا هُوَ سَاجِدًا بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَقُولُ سَجَدَ لَكَ خِيَالِي وَسَوَادِي الْخ.

- رواہ ابن شاہین کما ذکر عسقلانی -

- لسان المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 426 -

- میزان الاعتدال (عسقلانی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 65 -

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نصف شعبان کی شب میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ چنانچہ آپ بستر پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ کھڑے

ہوئے اور خود پر پانی بہایا پھر آپ تیزی سے باہر تشریف لے گئے۔ چنانچہ میں بھی آپ کے پیچھے گئی تو آپ جنت البقیع میں سجدہ کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے۔ سَجَدَ لَكَ خِيَالِي وَسَوَادِي الْخ. (مکمل دعا صفحہ نمبر 38 پر موجود ہے)۔

﴿2﴾

شب برات میں غسل کرنے کا فقہ سے ثبوت

وَيَنْدُبُ الْاِغْتِسَالُ فِي سِتَّةِ عَشَرَ شَيْئًا لِأَنَّهُ يَزِيدُ عَلَيْهَا ...
نَدِبَ فِي لَيْلَةِ الْبَرَاءَةِ وَهِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِأَحْيَائِهَا
وَعَظُمَ شَأْنُهَا إِذْ تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ وَالْأَجَالُ.

۔ مراقی الفلاح شرح نور الایضاح صفحہ نمبر 60۔

۔ فقہ العبادات۔ حنفی الباب الخامس الغسل۔

سولہ مواقع پر غسل کرنا مستحب ہے کیوں کہ ان مواقع میں اجر بڑھتا ہے۔ ان مستحب مواقع میں سے ایک موقع شب برات کا بھی ہے اسے زندہ کرنے کے لئے اور اس کے مقام کی تعظیم کے لئے، جب کہ اس رات میں رزق اور موتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔

﴿3﴾

100 رکعت نفل: قدیم اہل مکہ کا عمل

أَهْلُ مَكَّةَ فِي مَا مَضَى إِلَى الْيَوْمِ إِذَا كَانَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ

شَعْبَانَ، خَرَجَ عَامَةُ الْمُسْلِمِينَ وَالنِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلُّوا،
 وَطَافُوا، وَأَحْيَوْا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى الصُّبْحِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ حَتَّى يَخْتَمُوا الْقُرْآنَ كُلَّهُ وَيُصَلُّوا، وَمَنْ صَلَّى مِنْهُمْ
 اللَّيْلَةَ مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَقُلُّهُ اللهُ أَحَدٌ
 عَشْرَ مَرَّاتٍ وَأَخَذُوا مِنْ مَاءٍ رَمَزَمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَشَرِبُوا، وَاعْتَسَلُوا
 بِهِ وَخَبَأُوهُ عِنْدَهُمْ لِلْمَرْضَى، يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ الْبَرَكَاتِ فِي هَذِهِ
 اللَّيْلَةِ وَيُرْوَى فِيهِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ.

- اخبار مکہ (فاکھی متوفی 359ھ) جلد 5 صفحہ نمبر 23 باب ذکر اہل مکہ لیلۃ النصف من شعبان

اہل مکہ کا جو آج تک دور گذرا (اس حدیث کو اپنی تصنیف میں درج
 کرنے والے مصنف کا سن وفات 359ھ) ہے جب بھی شبِ برات آتی ہے
 مسلمان مرد اور عورتیں مسجد حرام کی طرف آتے ہیں۔ یہاں نمازیں پڑھتے ہیں
 طواف کرتے ہیں ساری رات جاگ کر گزارتے ہیں اور صبح تک قرأت قرآن
 کرتے ہیں اور یوں تلاوت میں ہی رات گذر جاتی ہے۔ ان میں بعض لوگ
 ایک سو نفل ادا کرتے ہیں اور ہر رکعت میں دس مرتبہ ”قُلُّهُ اللهُ أَحَدٌ“
 پڑھتے ہیں، وہ آبِ زمزم بھی پیتے ہیں، اس سے غسل کرتے ہیں نیز وہ اس سے
 جسمانی و روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اور وہ اس رات میں ان اعمال
 سے برکتیں سمیٹتے ہیں۔ اس سلسلہ میں بہت سی احادیث بیان کی جاتی ہیں۔

﴿4﴾

100 نفل کا ثبوت تیس ثقہ راویوں سے

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ الْعَجَلِيِّ قَالَ: أَعْطَانِي مَرْوَانُ
 بْنُ مُحَمَّدٍ كِتَابًا فِيهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ بَضْعَةً وَثَلَاثُونَ
 مِمَّنْ يُوثَّقُ بِهِمْ أَنَّهُ "مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قُلُّهُ
 اللَّهُ أَحَدًا لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى فِي مَنَامِهِ
 مِائَةَ مَلَكٍ. ثَلَاثُونَ يُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ، وَثَلَاثُونَ يُؤَيِّسُونَهُ مِنَ
 النَّارِ، وَثَلَاثُونَ يَعْصِمُونَهُ. وَعَشْرَةٌ يَكِيدُونَ لَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ."

۔ فضائل سورۃ اخلاص (حسن خلال) حدیث نمبر 14۔

۔ اخبار مکہ فاہمی جلد 5 صفحہ نمبر 27 باب ذکر اہل مکہ لیلۃ النصف من شعبان

حضرت عمرو بن مقدام عجلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں مجھے مروان بن
 محمد نے ایک کتاب عطا کی جس میں محدث ابو یحییٰ سے ایک روایت تھی، اور
 انہوں نے اس روایت کو تیس سے زائد ثقہ راویوں سے بیان کیا کہ بے شک جس
 نے بھی شبِ برات میں ایک سو نفل ایک ہزار مرتبہ "قُلُّهُ اللَّهُ أَحَدٌ" کے
 ساتھ پڑھے تو وہ نہیں مرے گا جب تک رحمت کا ایک سو فرشتہ نہ دیکھ لے۔ ان
 میں سے تیس فرشتے اسے جنت کی بشارت دینے کے لئے، تیس فرشتے اسے جہنم
 سے محفوظ رکھنے کے لئے، تیس اسے گناہوں سے بچانے کے لئے اور دس اسے
 دشمنوں سے بچانے کے لئے مامور ہوں گے۔

﴿5﴾

100 نفل کا ثبوت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ: لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَلْفَ مَرَّةٍ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" فِي مِائَةِ رَكْعَةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي مَنَامِهِ مِائَةَ مَلَكٍ.

۔ لسان المیزان (ابن حجر عسقلانی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی شب برات میں ایک سو نفل میں ایک ہزار مرتبہ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" پڑھا تو وہ نہیں مرے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس کے خواب میں ایک سو رحمت والے فرشتے نہ بھیج دے۔ (جو اسے جنت کی بشارتیں دیتے ہیں)

﴿6﴾

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی سونو نفل کی امام دیلمی کی سند سے توثیق

مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً مَنْ قَرَأَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَلْفَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي مِائَةِ رَكْعَةٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي مَنَامِهِ مِائَةَ مَلَكٍ

ثَلَاثُونَ يُبَشِّرُونَ الْجَنَّةَ وَثَلَاثُونَ يُؤَمِّنُونَ مِنَ النَّارِ وَثَلَاثُونَ
يَعَصِمُونَ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ وَعَشْرٌ يَكِيدُونَ مِنْ عَادَاهُ.

(قُلْتُ) أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ أَنبَانَا أَبِي أَنبَانَا أَبُو الْفَضْلِ

الْقَوْمَسَانِيُّ أَنبَا الْعَلَاءِ أَنبَانَا أَبُو الْقَاسِمِ الْعَتَاكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الْعَدْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الذُّهَلِيُّ

عَنْ أَبِي يَحْيَى حَدَّثَنِي أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ مِثْلَهُ سِوَاءِ وَاللَّهِ أَعْلَمُ.

۔ اللالی المصنوعہ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50۔

محمد بن مروان حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت

کرتے ہیں کہ جس نے شبِ برات میں سو رکعت میں ایک ہزار مرتبہ قل ھو اللہ احد

(سورہ اخلاص) پڑھی وہ دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیند

میں سو فرشتہ بھیجے گا۔ تیس فرشتے اسے جنت میں جانے کی بشارت دیں گے تیس

فرشتے اسے جہنم سے امن کی بشارت دیتے ہیں اور تیس فرشتے اسے گناہوں سے

بچاتے ہیں اور دس فرشتے اس کے دشمنوں کے عزائم بے کار کرتے ہیں۔ اس

روایت کے بارے میں امام سیوطی اپنا تبصرہ پیش کرتے ہیں۔ میں (سیوطی) نے

کہا کہ امام دیلمی نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خبر دی میرے والد

محترم نے (انہوں نے کہا) ہمیں ابوالفضل قومسانی نے خبر دی، (انہوں نے

کہا) ہمیں علاء نے خبر دی، (انہوں نے کہا) ہمیں ابوالقاسم العتاقی نے خبر دی، (انہوں نے کہا) ہمیں محمد بن حاتم نے بیان کیا، (انہوں نے کہا) ہمیں ابو حاتم رازی نے بیان کیا، (انہوں نے کہا) ہمیں محمد بن عبدالرحمن العزری نے بیان کیا، (انہوں نے کہا) ہمیں عمرو بن ثابت نے بیان کیا، اس سے آگے محمد بن مروان زہلی سے روایت ہے، پھر ابو یحییٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ والی وسلم کے چوتیس صحابہ کرام نے بیان فرمایا، ان سب نے یہی روایت بیان کی ہے جیسا کہ اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی گئی ہے۔

﴿7﴾

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو

100 نوافل کی فضیلت بیان فرمانا

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا عَلِيُّ مَنْ صَلَّى مِائَةَ رَكْعَةٍ فِي لَيْلَةِ
النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقُلُّهُ هُوَ
اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَلِيُّ مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي
هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَّا قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ طَلَبَهَا تِلْكَ
اللَّيْلَةَ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُ شَقِيًّا
أَيَجْعَلُهُ سَعِيدًا؟ قَالَ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا يَا عَلِيُّ إِنَّهُ
مَكْتُوبٌ فِي اللُّوحِ أَنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ خَلَقَ شَقِيًّا يَمْحُوهُ اللَّهُ

سَعِيدًا وَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَكْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ
وَيَمْحُونَ السَّيِّئَاتِ وَيَرْفَعُونَ لَهُ الدَّرَجَاتِ إِلَى رَأْسِ السَّنَةِ
وَيَبْعَثُ اللَّهُ فِي جَنَّتِ عَدْنِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ وَسَبْعَ مِائَةَ أَلْفِ
مَلَكٍ يَبْنُونَ لَهُ الْمَدَائِنَ وَالْقُصُورَ وَيَغْرِسُونَ لَهُ الْأَشْجَارَ مَا لَا
عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ الْمَخْلُوقِينَ

--- الخ (من شاء فليرجع الى اصله)

- تزييه الشريعة جلد 2 صفحہ نمبر 91۔ (طویل روایت)

- تفسیر روح البیان سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی جس نے شبِ برات
میں ایک سو نفل پڑھے اس طرح کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد دس مرتبہ
سورۃ الاخلاص پڑھے فرمایا اے علی جو بندہ بھی اس رات میں یہ عمل کرے گا تو اللہ
تعالیٰ اس رات میں اس کی ہر ضرورت پوری کرے گا۔ عرض کیا گیا کہ اگر وہ
بد بخت ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اسے نیک بخت بنا دے گا؟۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ
اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اے علی لو رح محفوظ
پر لکھا گیا ہو کہ فلاں بن فلاں بد بخت پیدا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر اسے
خوش بخت لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر ہزار فرشتے بھیجتا ہے جو
اس کے لئے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور برائیاں مٹاتے رہتے ہیں۔ اور اگلے
سال تک اس کے لئے درجات بلند کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے

لئے ستر ہزار یا سات لاکھ فرشتے مقرر فرمائے گا جو اس کے لئے جنت میں شہر بنائیں گے۔ اور ان میں ایسے محلات اور باغات ہوں گے جیسے نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہوں گے اور نہ ہی کسی کان نے سنے ہوں گے اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور آیا ہوگا۔ (آگے طویل روایت)

﴿8﴾

100 نفل حضرت حسن بصری کا تیس صحابہ کرام سے ثبوت

وَأَمَّا صَلَاةُ شَعْبَانَ فَلَيْلَةُ الْخَامِسِ عَشْرَ مِنْهُ يُصَلِّي مِائَةَ رُكُوعَةٍ. كُلُّ رُكُوعَةٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رُكُوعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ أَحَدِي عَشْرَ مَرَّةً وَإِنْ شَاءَ صَلَّى عَشْرَ رُكُوعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رُكُوعَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. فَهَذَا أَيْضًا مَرْوِيُّ فِي جُمْلَةِ الصَّلَوَاتِ كَانَ يُصَلُّونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَيُسَمُّونَ صَلَاةَ الْخَيْرِ وَيَجْتَمِعُونَ فِيهَا وَرُبَّمَا صَلَّوْهَا جَمَاعَةً.

رَوَى الْحَسَنُ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ سَبْعِينَ نَظْرَةً وَقَضَى لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ سَبْعِينَ حَاجَةً أَدْنَاهَا الْمَغْفِرَةُ

- احیاء العلوم کتاب الصلاة باب القسم الثالث ما يتكرر بتكرار السنين -

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349 -

- قوٹ القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 -

- تفسیر روح البیان سورۃ الدخان آیت نمبر 4۔

- مدارج النبوة جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492۔

- جواہر خمسہ صفحہ نمبر 78۔

جہاں تک شعبان کی پندرہوں رات (شب برات) کی نماز کی بات ہے اس میں ایک سو رکعت ہر دو رکعت سلام کے ساتھ (دو دو رکعت) ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد گیارہ مرتبہ۔ اور اگر چاہے تو دس رکعات پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سو مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ چنانچہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ نماز پڑھتے تھے اور اس کو صلاۃ الخیر کا نام دیتے تھے۔ اور وہ لوگ اس رات میں جمع ہوتے تھے۔ اور کبھی کبھی اس کو باجماعت بھی ادا کرتے تھے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ جو شخص شب برات میں یہ نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر مرتبہ دیکھے گا اور ہر مرتبہ دیکھنے میں اس کی ستر حاجات پوری کرے گا اور ان میں سے کم از کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔

﴿9﴾

100 نوافل کا اجر 100 فرشتے

مَنْ صَلَّى مِائَةً رَكْعَةً أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِائَةَ مَلَكٍ : ثَلَاثُونَ يُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ ، وَثَلَاثُونَ يُؤَمِّنُونَهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَثَلَاثُونَ يَدْفَعُونَ عَنْهُ آفَاتِ الدُّنْيَا ، وَعَشْرَةٌ يَدْفَعُونَ عَنْهُ مَكَايِدَ

الشَّيْطَانِ وَنُزُولِ الرَّحْمَةِ.

- تفسیر نیشاپوری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 490۔

- تفسیر کشاف تحت سورۃ الدخان تحت آیت نمبر 4۔

- تفسیر روح البیان تحت سورۃ الدخان تحت آیت نمبر 4۔

- تفسیر السراج المنیر تحت سورۃ الدخان تحت آیت نمبر 4۔

جس نے شبِ برات میں سو رکعت ادا کی اللہ تعالیٰ اس کی طرف سو فرشتے بھیجے گا تیس فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ تیس فرشتے اس کو جہنم کے عذاب سے امن دیں گے اور تیس فرشتے اس سے دنیا کی آفات دور کریں گے۔ اور دس فرشتے اس کو شرِ شیطان سے بچائیں گے اور رحمت کا نزول کریں گے۔

﴿10﴾

100 نوافل کا حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے ثبوت

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ يقرأ فِيهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُبَشَّرَ بِالْجَنَّةِ.

- فضائل رمضان (امام ابن ابی الدنیا) حدیث نمبر 9۔

حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جس نے نصفِ رمضان کی شب اور نصفِ شعبان کی شب میں سو رکعت نفل ادا کئے اور ان میں قل هو اللہ احد ایک ہزار مرتبہ پڑھی تو جنت کی خوشخبری ملنے تک اسے موت نہیں آئے گی۔

﴿11﴾

حضور ﷺ کا 14 رکعت نفل پڑھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دیکھنا

قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَةَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَقَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَقُلَّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَقُلَّ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَقُلَّ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ (الاية) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَأَلَتْهُ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ صُنْعِهِ قَالَ: مَنْ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ كَانَ لَهُ عِشْرِينَ حَجَّةً مَبْرُورَةً وَصِيَامٌ عِشْرِينَ سَنَةً مَقْبُولَةً فَإِنْ أَصْبَحَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ صَائِمًا كَانَ لَهُ كَصِيَامِ سَنَتَيْنِ سَنَةً مَاضِيَةً وَسَنَةً مُسْتَقْبَلَةً.

نوٹ: اس روایت کی ایک اور سند کو امام بیہقی نے اپنی دانست میں ضعیف کہا ہے موضوع نہیں۔

- شعب الایمان (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386۔

- کنز العمال جلد نمبر 14 حدیث نمبر: 38293۔

- تفسیر درمنثور جلد 7 صفحہ نمبر 404۔

- مدارج النبوة جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شبِ

برات میں دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے اور چودہ رکعت ادا کیں۔ جب فارغ ہوئے تو آپ تشریف فرما ہو گئے اور آپ نے چودہ مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، چودہ مرتبہ سورۃ الاخلاص، چودہ مرتبہ سورۃ الفلق، چودہ مرتبہ سورۃ الناس، آیت الکرسی ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ (الایۃ) پڑھی جب آپ اس عمل سے فارغ ہو گئے تو میں نے آپ کو جو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا اس بارے میں استفسار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا اسے بیس حج مقبول بیس برس کے مقبول نفلی روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر وہ اس دن میں روزہ بھی رکھے تو اس کے لئے دو سال ایک سال زمانہ ماضی اور ایک سال زمانہ مستقبل کے روزے رکھنے کی طرح ہوگا۔

﴿12﴾

ایک سال کی پندرہ راتوں کی اہمیت

وَيَسْتَجِيبُ اَحْيَاءُ خَمْسَ عَشْرَ لَيْلَةٍ فِي السَّنَةِ... لَيْلَةُ النِّصْفِ
مِنْ شَعْبَانَ وَقَدْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِائَةَ رَكْعَةٍ بِأَلْفِ مَرَّةٍ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيُسْمَوْنَ هَذِهِ الصَّلَاةَ صَلَاةَ
الْخَيْرِ وَيَتَعَرَّفُونَ بَرَكَاتَهَا وَيَجْتَمِعُونَ فِيهَا وَرُبَّمَا صَلَّوْهَا جَمَاعَةً

- قوت القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 -

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328 + 349 -

- مختصر منہاج القاصدین از ابن قدامہ مقدسی فصل فی بیان اللیالی والایام الفاضلۃ -

سال میں پندرہ راتوں میں شبِ بیداری مستحب ہے (چودہ راتیں شمار کر کے پندرہویں رات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ) نصف شعبان کی شب (شبِ برات) ہے اس رات میں صلحاء ایک ہزار مرتبہ قل ھو اللہ احد کے ساتھ ایک سو رکعت ادا کرتے ہیں۔ وہ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ وہ لوگ اس کی خیر و برکات کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اس نماز کو کبھی کبھی وہ باجماعت بھی ادا کر لیتے ہیں۔

﴿13﴾

بارہ نوافل کا اجر

مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثِينَ مَرَّةً لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيَشْفَعُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

- تزییر الشریعہ جلد 2 صفحہ نمبر 92۔

شبِ برات میں جس نے بارہ نفل ادا کئے ہر رکعت میں تیس مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے تو وہ دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا اور وہ اپنے اہل و عیال میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو ان کی شفاعت کر سکے گا

﴿14﴾

بارہ نوافل کا اجر

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

اَثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ مُّحِيَّتْ عَنْهُ سَيِّئَاتُهُ وَبُورِكَ لَهُ فِي عُمْرِهِ۔

- نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 -

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شبِ برات میں 12
رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص
پڑھے اس کی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کی عمر میں برکت دی جائے گی

﴿15﴾

دونوں اہل کی فضیلت

مَرَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى جَبَلٍ فَرَأَى فِيهِ صَخْرَةً
بَيْضَاءَ فَطَافَ بِهَا عِيسَى وَتَعَجَّبَ مِنْهَا فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ
أَبَيِّنَ لَكَ أَعْجَبَ مِمَّا رَأَيْتَ؟ قَالَ نَعَمْ. فَاَنْفَلَقَتِ الصَّخْرَةُ عَنْ
رَجُلٍ بِيَدِهِ عُكَّازَةٌ خَضْرَاءُ وَعِنْدَهُ شَجَرَةٌ عِنَبٍ. فَقَالَ: هَذَا رِزْقِي
كُلَّ يَوْمٍ. فَقَالَ: كَمْ تَعْبُدُ اللَّهَ فِي هَذَا الْحَجَرِ؟ فَقَالَ: مُنْذُ أَرْبَعَةِ
مِائَةِ سَنَةٍ. فَقَالَ عِيسَى: يَا رَبِّ مَا أَظُنُّكَ خَلَقْتَ خَلْقًا أَفْضَلَ مِنْهُ.
فَقَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم
رَكْعَتَيْنِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِ مِائَةِ عَامٍ. قَالَ عِيسَى:
لَيْتَنِي مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم.

- نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 -

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گذرے اس پر انہیں ایک سفید گنبد نظر آیا۔ انہوں نے اسے ہر طرف سے گھوم کر دیکھا اور بہت ہی متعجب ہوئے۔ پس ان پر وحی نازل ہوئی کہ کیا آپ اس سے بھی حیران کن راز سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں کہ جسے آپ پر آشکارا کر دیا جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ چنانچہ وہ چٹان پھٹ گئی اس میں سے ایک آدمی سبز رنگ کا عصا لئے باہر آیا۔ اس کے پاس انگوروں کی ایک بیل لگی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ یہ میری روزانہ کی خوراک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس پتھر میں کب سے عبادت کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ چار سو سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں خیال کرتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر تیرے ہاں اور کوئی بھی فضیلت والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو بھی نصف شعبان کی شب (شبِ برات) کو دو نفل ادا کر لے گا تو وہ دو نفل اس کے چار سو سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کاش میں بھی امتِ مصطفیٰ میں سے ہوتا۔

﴿16﴾

بعد از نمازِ مغرب سورہ یس کا اجر

أَمَّا قِرَاءَةُ سُورَةِ يَسٍ لَيْلَتُهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالذُّعَاءُ مَشْهُورٌ فَمِنْ

تَرْتِيبِ بَعْضِ اَهْلِ الصَّلَاحِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ قِيْلَهَا الْبُوْنِي وَلَا بِاَسٍ
بِمِثْلِ ذَلِكَ.

- اسی المطالب صفحہ نمبر 343۔

شبِ برات میں مغرب کی نماز کے بعد سورۃ یس اور دعا جو کہ عوام میں مشہور ہے تو اہل صلاح میں سے جس نے بھی اسے ترتیب دیا اس کے بارے میں امام بونی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی مثل کسی بھی نیکی میں کوئی حرج نہیں ہے۔

﴿17﴾

شبِ برات میں روزہ رکھنے کا حکم

عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا
نَهَارَهَا. فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِعُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا
فَيَقُولُ آلا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ آلا مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ آلا مُبْتَلَى
فَأَعَافِيَهُ آلا كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

نوٹ: فاغفر، فارزقہ اور فاعافیہ کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے۔

- سنن ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلاۃ والسنۃ فیہا باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان

- شعب الایمان (نیہتی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378۔

- فردوس الاخبار (دیلمی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 321

- مسند الفردوس (دیلمی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259۔

- عمدۃ القاری (بدرالدین عینی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 82

- مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 115۔

- مرقاۃ (علامہ علی قاری) شرح مشکوٰۃ کتاب الصلاة باب قیام شہر رمضان۔

- تہذیب الکمال (مزنی) جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 107۔

- احیاء علوم الدین (غزالی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔

- اخبار مکہ (فاکھی) حدیث نمبر 1773۔

- جامع الاحادیث (سیوطی) حدیث نمبر 2621۔

- اماؤ ابن بشران حدیث نمبر 703۔

- فضائل الاوقات (بیہقی) حدیث نمبر 24۔

- التہذیب والترتیب (منذری) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74۔

- میزان الاعتدال (ذہبی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 504۔

- تہذیب الکمال (مزنی) جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 107۔

- جمع الجوامع (سیوطی) حدیث نمبر 2632۔

- غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345۔

- کنز العمال (علی المتقی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 140۔

- نزہۃ المجالس (عبدالرحمن صفوری) صفحہ نمبر 210۔

- تفسیر قرطبی تحت الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر درمنثور (سیوطی) تحت الدخان آیت نمبر 4۔

- تفسیر روح المعانی (آلوسی) تحت الدخان آیت نمبر 4۔

- ما ثبت بالنسۃ (شیخ محقق) صفحہ نمبر 191۔

- تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 433۔

حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ جب پندرہ شعبان کی شب آئے تو رات قیام (عبادت) کرو

اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ پس بے شک سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرما کر ارشاد فرماتا ہے۔ ہے کوئی تم میں سے مغفرت طلب کرنے والا؟ کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا؟ کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ؟ کہ میں اس کو عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہ آوازیں طلوع فجر تک مسلسل آتی رہتی ہیں مسلسل آتی ہیں۔

﴿18﴾

شب برات والے دن پرندوں اور جانوروں کا روزہ

إِنَّ الْجِنَّ وَالطَّيْرَ وَالسَّبَاعَ وَحَيْتَانَ الْبَحْرِ يَصُومُونَ يَوْمَ
النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210۔

پندرہ شعبان کے دن جن، پرندے، درندے اور سمندر کی مچھلیاں روزہ رکھتی ہیں

حَبِيبٌ لَيْسَ غَيْرُكَ لِي حَبِيبٌ

وَمَا لِسِوَاهُ فِي قَلْبِي نَصِيبٌ

حَبِيبٌ غَابَ عَنِّي وَعِيسِي

وَعَن قَلْبِي حَبِيبِي لَا يَغِيبُ

شب برات کے موقع پر باقاعدہ عمل نماز عصر کے بعد کا عمل

شب برات والے دن بعد از نماز عصر غروب آفتاب سے پہلے 40 بار

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

آغاز عمل: نماز مغرب کے بعد کا عمل

شعبان المعظم کی پندرہویں رات کو بعد مغرب تین مرتبہ سورہ لیس شریف پڑھے پہلی بار طول عمر مع عافیت کی نیت سے پڑھے، دوسری بار دفع بلا کی نیت سے پڑھے، تیسری بار حصولِ غنا کی نیت سے پڑھے اور ہر مرتبہ سورہ لیس شریف پڑھنے سے پہلے دو رکعت نماز نفل پڑھے اور چھ نفل کے بعد دعاء پڑھے (دعا اس کے بعد لکھی ہوئی ہے) اور اس دن غسل کرنا موجب نجات از بلا و سحر و جادو ہے اور بہتر یہ ہے کہ بیری کے سات پتے پیس کر ایک گھڑا پانی ملا کر اس سے غسل کرے۔ حضور اعلیٰ حضرت قدس سرہ اور سرکار مفتی اعظم ہند دامت برکاتہم کا اس پر عمل رہا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ چودہ شعبان کو اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق معاف کر دیں اور ان کے حقوق معاف کر لیں تاکہ ذمہ سے حقوق العباد ساقط ہو جائیں۔ اور دعا یہ ہے:

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَرِّ وَلَا يَمُنُّ عَلَيْهِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

وَيَا ذَا الطَّوْلِ وَالْإِنْعَامِ لِإِلَهِ الْآنُكَ ظَهَرَ اللَّاجِينَ وَجَارِ
 الْمُسْتَجِيرِينَ وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي
 أُمَّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقْتَرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ
 أَوْ مَرِيضًا فَامْحُ . اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ بِشِقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي
 وَاقْتِنَارِ رِزْقِي وَمَرَضِي وَاثْبُتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمَّ الْكِتَابِ سَعِيدًا
 مَرْرُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ مُعَافَى مَغْفُورًا مَرْحُومًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمَنْزِلَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ
 الْمُرْسَلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ
 وَعِنْدَهُ أُمَّ الْكِتَابِ إِلَهِي بِالتَّحْلِ الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ
 شَعْبَانَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ
 وَيُبْرَمُ أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَأَنْتَ
 بِهِ أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ
 وَكَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ مِنَّا وَمِنْ أَهْلِنَا
 وَمِنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ
 اجْعَلْ بَرَكَاتَهُ بَاقِيَةً فِينَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ . آمِينَ .

غسل کے بعد 2 نفل

غسل کے بعد 2 رکعت نماز تہیۃ الوضوء پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد از الحمد

شریف آیۃ الکرسی ایک بار اور سورۃ اخلاص تین بار پڑھے۔

مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل

بعد از نماز مغرب چھ رکعت نفل پڑھے۔ پہلے دو نفل درازی عمر بالخیر، دوسرے

دو نفل دفع بلا۔ تیسرے دو نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کے پڑھے اور ہر سلام کے

بعد سورۃ یسین 1 بار، سورۃ اخلاص 21 بار پڑھے نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے:

شعبان المعظم کی دعا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ

الَّذِينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝

عشاء کی نماز کے بعد اعمال

4 نفل

چار رکعت نفل پڑھے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 50,50 مرتبہ

سورۃ الفاتحہ پڑھے۔

8 نفل

دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد آٹھ رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں

بعد الحمد شریف سورۃ القدر ایک ایک بار اور سورۃ اخلاص 25 بار پڑھے۔

8 نفل

جو شخص آٹھ رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد گیارہ گیارہ بار سورۃ اخلاص پڑھے پھر اس کا ثواب حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی روح کو بخش دے۔ تو آپ اس کی شفاعت فرمائیں گی۔

12 نفل

بارہ رکعت نفل پڑھے ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد دس بار سورۃ اخلاص پڑھے

12 نفل

شب برات میں جس نے بارہ نفل ادا کئے ہر رکعت میں تیس، تیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ اور وہ اپنے اہل و عیال میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو ان کی شفاعت کر سکے گا۔

14 نفل اور اس کا طریقہ اور ان کا اجر

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شب برات میں دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے اور چودہ رکعت ادا کیں۔ جب نوافل سے فارغ ہوئے تو آپ تشریف فرما ہو گئے اور آپ نے چودہ مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، چودہ مرتبہ سورۃ الاخلاص، چودہ مرتبہ سورۃ الفلق، چودہ مرتبہ سورۃ الناس، آیت الکرسی ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ

أَنفُسِكُمُ الْخِزْيَانِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (مائدہ: ۷۰) جب آپ اس عمل سے فارغ ہو گئے تو میں نے آپ کو جو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا اس بارے میں استفسار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا اسے بیس حج مقبول ہیں برس کے مقبول نفلِ روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر وہ اس دن میں روزہ بھی رکھے تو اس کے لئے دو سال ایک سال زمانہ ماضی اور ایک سال زمانہ مستقبل کے روزے رکھنے کی طرح ہوگا۔

15 شعبان کا روزہ

اگر ممکن ہو تو 15 پندرہ شعبان یعنی شبِ برات کا روزہ بھی ضرور رکھیں۔

صلوٰۃ التسبیح

صلوٰۃ التسبیح ضرور ادا کریں کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو بھی صلوٰۃ التسبیح ادا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔

وَلَيْسَ هَوَائِي نَازِعًا عَنْ ثَنَائِهِ
لَعَلِّي بِهِ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ أَخْلُدُ
مَعَ الْمُصْطَفَى أَزْجُو بِذَاكَ جِوَارَهُ
وَفِي نَيْلِ ذَاكَ الْيَوْمِ أَسْعَى وَأَجْهَدُ

آخری التجا

مذکورہ بالا تمام روایات ہم نے شبِ برات کی فضیلت میں پیش کی ہیں۔ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود اس رات میں عبادت کا اہتمام فرماتے بلکہ آپ صحابہ کرام کو بھی اس رات میں عبادت کے لئے رغبت دلاتے تھے۔ بد قسمتی سے ہمیں وہ دور دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں کچھ لوگ خود کو احادیثِ مصطفیٰ کا ٹھیکیدار سمجھ کر اپنی ہر من مانی مرضی کو عین دین اور اپنے مسلک سے اتفاق نہ کرنے والوں کے ہر کام کو بدعت قرار دیتے ہیں اور اسی لئے شبِ برات جیسی اہم، معزز اور محترم رات کو بھی اپنی ضد اور جہالت کی بھینٹ چڑھا کر اللہ تعالیٰ کے اس مقدس انعام کی اپنی تحریروں اور تقریروں میں بے ادبی اور بے حرمتی کا بڑے دھڑلے سے ارتکاب کرتے ہیں اور انہیں اس سب سے نامشکور کو عین اسلام کا نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن نیک سیرت لوگوں کو اس شب کا قیام اور دن کا روزہ رکھنے کی توفیق الہی ملتی ہے وہ تو بہاریں لوٹتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں ذکر اذکار بھی کرتے ہیں اور خصوصیت سے اپنے گناہوں کے دفتروں کو اپنے آنسوؤں کے پانی سے صاف کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پر کچھ لوگ عام مسلمانوں کو یہ طعنہ زنی کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر

غیر اللہ سے مانگتے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہئے۔ جب مسلمان ایسے مقدس لمحات میں پورے خلوص سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ان پر بدعت کے فتوے جڑ دئے جاتے ہیں۔ ”خدا جب دین لیتا ہے حماقت آہی جاتی ہے،، کا مصداق بنتے ہیں۔ بہر حال ہمیں ایسے لوگوں سے کیا لینا دینا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے۔

آئیے عبادت بیزار لوگوں کی باتیں چھوڑ کر اس شب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں اور اپنے گناہوں کی معافی، رزقِ حلال کی طلب، دنیاوی پریشانیوں کا خاتمہ، اپنے فوت شدگان کی مغفرت اور اپنی آخرت کی بہتری کے لئے اپنے مہربان اور مشفق ترین رب کائنات سے رورو کر دعائیں مانگیں اور دن میں روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس شب میں بیدار رہنا، قبرستان جانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے قبرستان جا کر اپنے فوت شدگان کے لئے دعائیں کریں۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ وَأَنَا شَاكِرٌ
عَلَىٰ عَطَاءِ رَبِّي شُكْرًا جَزِيلًا

ماخذ و مراجع

قرآن پاک

- تفسیر ابن جریر از ابو جعفر محمد ابن جریر طبری متونی 310 ھ
- تفسیر ابن ابی حاتم از عبدالرحمن بن ادريس بن ابی حاتم متونی 327 ھ
- تفسیر الکشف والبیان از ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم ثعلبی متونی 427 ھ
- اسباب نزول القرآن از ابوالحسن علی بن احمد الواحدی نیشاپوری متونی 468 ھ
- تفسیر معالم التنزیل از ابو محمد حسین بن مسعود بغوی متونی 516 ھ
- تفسیر الکشاف از ابوالقاسم محمود بن عمرو بن احمد زحشری متونی 538 ھ
- تفسیر المحرر الوجیز از ابو محمد ابن عطیہ متونی 541 ھ
- تفسیر کبیر از فخر الدین رازی محمد بن عمر بن حسین رازی متونی 606 ھ
- تفسیر قرطبی از ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی متونی 668 ھ
- تفسیر خازن از علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم خازن متونی 741 ھ
- تفسیر ابن کثیر ابوالفداء عماد الدین بن عمر بن کثیر متونی 774 ھ
- تفسیر ثعالبی از عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف ثعالبی متونی 875 ھ
- تفسیر اللباب ابن عادل از عمر بن علی بن عادل الدمشقی متونی 880 ھ
- تفسیر نظم الدرر از ابراہیم بن عمر بن حسن الرباط البقاعی متونی 885 ھ
- تفسیر الدر المنثور از جلال الدین سیوطی متونی 911 ھ
- تفسیر السراج المنیر از محمد الشریفی الخطیب متونی 977 ھ
- تفسیر روح البیان از شیخ اسماعیل متنی متونی 1137 ھ
- تفسیر روح المعانی از علامہ محمود آلوسی متونی 1270 ھ

- تفسیر ضیاء القرآن از حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری متوفی 1419ھ
- تفسیر تبیان القرآن از علامہ غلام رسول سعیدی حفظہ اللہ تعالیٰ
- مسند امام شافعی از ابو عبد اللہ محمد بن ادریس الشافعی متوفی 204ھ
- کتاب الام از ابو عبد اللہ محمد بن ادریس الشافعی متوفی 204ھ
- فتوح الشام از محمد بن عمر بن واقد واقدی متوفی 207ھ
- مصنف عبد الرزاق از عبد الرزاق بن ہمام الصنعانی متوفی 211ھ
- کتاب العرش از ابو بکر عبد اللہ بن ابن ابی شیبہ متوفی 235ھ
- مصنف ابن ابی شیبہ از ابو بکر عبد اللہ بن ابن ابی شیبہ متوفی 235ھ
- مسند اسحاق بن راہویہ از اسحاق بن ابراہیم بن مخلد مروزی متوفی 238ھ
- مسند امام احمد بن حنبل از ابو عبد اللہ احمد بن حنبل متوفی 241ھ
- الترغیب والترہیب از ابن حمید بن مخلد بن زنجویہ متوفی 248ھ
- مسند عبد بن حمید از ابو محمد عبد بن حمید بن نصر متوفی 249ھ
- الرد علی الجبیمۃ از عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی متوفی 255ھ
- سنن ابن ماجہ از محمد بن یزید قزوینی ابن ماجہ متوفی 273ھ
- المعرفۃ والتاریخ از ابو یوسف یعقوب بن سفیان جوان الفسوی متوفی 277ھ
- جامع ترمذی از ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی 279ھ
- فضائل رمضان از ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن عبید المعروف ابن ابی الدنیا متوفی 281ھ
- بغیۃ الحارث از الحارث محمد بن ابی اسامہ متوفی 282ھ
- کتاب النزول از علی بن عمر بن احمد الدارقطنی متوفی 285ھ
- النزول الدارقطنی از علی بن عمر بن احمد الدارقطنی متوفی 285ھ
- موسوعۃ اقوال الدارقطنی (ابو المعالی متوفی) از علی بن عمر بن احمد الدارقطنی متوفی 285ھ

- السنہ از عمرو بن ابن ابی عامر
متونی 287 ھ
- السنہ عبداللہ بن احمد بن حنبل
متونی 290 ھ
- مسند البزار از ابو بکر احمد بن عمرو البزار
متونی 292 ھ
- مسند ابی بکر مروزی از محمد بن نصر بن الحجاج المروزی
متونی 293 ھ
- سنن نسائی از احمد بن شعیب نسائی
متونی 303 ھ
- تاریخ طبری از ابو جعفر محمد ابن جریر طبری
متونی 310 ھ
- التوحید از ابو بکر محمد بن اسحاق ابن خزیمہ
متونی 311 ھ
- مساوی الاخلاق (خرائطی) از ابو بکر محمد بن جعفر بن محمد الشاکر الخرائطی
متونی 327 ھ
- المجالسة والجواهر العلم از ابو بکر احمد بن مروان بن محمد دینوری
متونی 333 ھ
- الفرج بعد الشدة از ابو القاسم علی بن محمد التوخی
متونی 342 ھ
- المعجم الصحابة (قاضی ابوالحسین عبدالباقی بن قانع
متونی 351 ھ
- اخبار مکہ از ابو عبداللہ محمد بن اسحاق بن العباس فاکہی
متونی 353 ھ
- صحیح ابن حبان از حافظ ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد التمیمی
متونی 354 ھ
- کتاب الثقات از حافظ ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد التمیمی
متونی 354 ھ
- مشاہیر علماء الامصار از حافظ ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد التمیمی
متونی 354 ھ
- المعجم الکبیر از حافظ سلیمان بن احمد طبرانی
متونی 360 ھ
- المعجم الاوسط از حافظ سلیمان بن احمد طبرانی
متونی 360 ھ
- مسند شامیین از حافظ سلیمان بن احمد طبرانی
متونی 360 ھ
- کتاب الدعاء از حافظ سلیمان بن احمد طبرانی
متونی 360 ھ
- الکامل از ابو احمد عبداللہ بن عدی الجرجانی
متونی 365 ھ
- اخلاق النبی ﷺ از ابو محمد بن عبداللہ بن محمد الشہیر ابو الشیخ
متونی 369 ھ

- امالی ابن سمعون از ابو الحسن محمد بن احمد بن اسماعیل البغدادی متوفی 378ھ
- الترغیب از ابو حفص احمد بن عمر بن عثمان المعروف ابن شاہین متوفی 385ھ
- قوت القلوب از ابو طالب محمد بن علی مکی متوفی 386ھ
- الابانۃ الکبریٰ ابو عبد اللہ عبید اللہ بن محمد المعروف ابن بطہ متوفی 387ھ
- اعتقاد اہل السنۃ از ہبۃ اللہ بن الحسن بن منصور اللاکائی متوفی 418ھ
- شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ از ہبۃ اللہ بن الحسن بن منصور اللاکائی متوفی 418ھ
- الترغیب والترہیب از حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی متوفی 430ھ
- حلیۃ الاولیاء از حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی متوفی 430ھ
- امالی ابن بشران از عبد الملک بن بشران متوفی 432ھ
- المجالس عشرہ از ابو محمد حسن بن ابی طالب محمد بن حسن بن علی الخلال متوفی 439ھ
- فضائل سورۃ اخلاص از ابو محمد حسن بن محمد بن حسن البغدادی الخلال متوفی 439ھ
- اخبار العلماء باخبار الحکماء از جمال الدین علی بن یوسف القفطی متوفی 646ھ
- السنن الصغیر از احمد بن حسین بیہقی متوفی 458ھ
- الدعوات الکبیر از احمد بن حسین بیہقی متوفی 458ھ
- شعب الایمان از احمد بن حسین بیہقی متوفی 458ھ
- سنن کبریٰ از احمد بن حسین بیہقی متوفی 458ھ
- فضائل الاوقات از احمد بن حسین بیہقی متوفی 458ھ
- ذیل سنن کبریٰ از احمد بن حسین بیہقی متوفی 458ھ
- کنوز السنۃ النبویۃ از احمد بن حسین بیہقی متوفی 458ھ
- معرفة السنن والاخبار از احمد بن حسین بیہقی متوفی 458ھ
- امالی الشجرۃ از ابن شجرۃ متوفی 499ھ

- اکمال الکمال از ابوالنصر امیر ابن ماکولا متوفی 475ھ
- طبقات الفقهاء از ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف متوفی 476ھ
- احیاء علوم الدین از ابو حامد محمد بن غزالی متوفی 505ھ
- مکاشفۃ القلوب از ابو حامد محمد بن غزالی متوفی 505ھ
- فردوس الاخبار از شیرودیہ بن شہر دار بن شیرودیہ دیلمی متوفی 509ھ
- شرح السنہ از ابو محمد حسین بن مسعود بغوی متوفی 516ھ
- طبقات الحنابلہ از محمد بن محمد بن حسین بن ابی یعلیٰ متوفی 526ھ
- ربیع الابرار از ابوالقاسم محمود بن عمرو بن احمد زخشری متوفی 538ھ
- مسند الفردوس از ابو منصور شہر دار بن شیرودیہ دیلمی متوفی 558ھ
- غنیۃ الطالبین از حضرت عبدالقادر جیلانی متوفی 561ھ
- التحییر فی المعجم الکبیر از ابوالسعد عبدالکریم بن محمد السمعی متوفی 562ھ
- تاریخ مدینہ دمشق از ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عساکر متوفی 571ھ
- مختصر تاریخ دمشق از ابوالقاسم علی بن حسین ابن عساکر متوفی 571ھ
- تہذیب ابن عساکر از ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عساکر متوفی 571ھ
- الصلہ از خلف بن عبدالملک بن مسعود ابن بشکوال الخزرجی متوفی 578ھ
- التبصرہ از ابولفرج ابن جوزی متوفی 597ھ
- العلل المتماہیۃ از ابولفرج ابن جوزی متوفی 597ھ
- التبصرہ از ابولفرج ابن جوزی متوفی 597ھ
- الزہر الفاتح از ابولفرج ابن جوزی متوفی 597ھ
- اسد الغابہ از مجد الدین السبارک بن محمد العشیانی ابن اثیر جزری متوفی 608ھ
- جامع الاصول از مجد الدین السبارک بن محمد العشیانی ابن اثیر جزری متوفی 608ھ

- التواہین از ابو عمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامہ مقدسی متوفی 607ھ
- مختصر منہاج القاصدین از ابو عمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامہ مقدسی متوفی 607ھ
- ذیل تاریخ بغداد از ابو عبد اللہ محمد بن محمود المعروف ابن نجار متوفی 643ھ
- الترغیب والترہیب از ذکی الدین عبد العظیم منذری متوفی 656ھ
- التذکرۃ از ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی متوفی 668ھ
- روضۃ الطالبین وعمدۃ المتقین ابو زکریا یحییٰ بن شرف الدین نووی متوفی 676ھ
- وفیات العیان از احمد بن محمد بن ابراہیم بن ابی بکر ابن خلکان متوفی 681ھ
- تاریخ مکۃ المکرمۃ والمسجد الحرام از ابو البقاء محمد بہاؤ الدین بن ضیاء المکی متوفی 720ھ
- العقیدۃ الحمویۃ از ابو العباس تقی الدین بن تیمیہ متوفی 728ھ
- مجموع الفتاویٰ از ابو العباس تقی الدین بن تیمیہ متوفی 728ھ
- الفتاویٰ الکبریٰ از ابو العباس تقی الدین بن تیمیہ متوفی 728ھ
- اقتضاء الصراط المستقیم از ابو العباس تقی الدین بن تیمیہ متوفی 728ھ
- الاختیارات العلمیۃ از ابو العباس تقی الدین بن تیمیہ متوفی 728ھ
- عیون الاثر از ابن سید الناس بصری متوفی 734ھ
- تہذیب الکمال از یوسف بن ذکی عبد الرحمن ابو الحجاج المزنی متوفی 742ھ
- تحفۃ الاشراف از یوسف بن ذکی عبد الرحمن ابو الحجاج المزنی متوفی 742ھ
- مشکوٰۃ شریف از ولی الدین خطیب تبریزی متوفی 742ھ
- تاریخ بغداد از ولی الدین خطیب تبریزی متوفی 742ھ
- الکبائر (ذہبی) از شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی متوفی 748ھ
- میزان الاعتدال از شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی متوفی 748ھ
- سیر اعلام النبلاء از شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی متوفی 748ھ

- تذکرۃ الحفاظ از شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی متوفی 748ھ
- تہذیب سنن ابی داؤد از شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القیم متوفی 751ھ
- اجتماع الجیوش الاسلامیہ از شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القیم متوفی 751ھ
- الروض الریاحین از امام عبداللہ بن اسعد یافعی متوفی 768ھ
- البدایۃ والنہایۃ ابو الفداء عماد الدین بن عمر بن کثیر متوفی 774ھ
- السیرۃ النبویۃ از عماد الدین ابن کثیر متوفی 774ھ
- الوفیات از تقی الدین ابن رافع السلامی متوفی 774ھ
- کتاب الاعتصام از ابواسحاق ابرہیم بن موسی الشاطبی متوفی 790ھ
- تاریخ قضاۃ الاندلس از قاضی ابوالحسن علی بن عبداللہ بن النباہی متوفی 793ھ
- ذیل طبقات حنابلہ از ابوالعباس عبدالرحمن بن احمد بن رجب متوفی 795ھ
- لطائف المعارف از ابوالعباس عبدالرحمن بن احمد بن رجب متوفی 795ھ
- طبقات الاولیاء از شیخ سراج الدین عمر بن علی بن احمد ابن ملقن متوفی 804ھ
- تخریج احادیث اہیاء العلوم از زین الدین عراقی متوفی 806ھ
- موارد النظمآن از حافظ نور الدین علی بن ابوبکر ہاشمی متوفی 807ھ
- مجمع الزوائد از حافظ نور الدین علی بن ابوبکر ہاشمی متوفی 807ھ
- غایۃ المقصد از حافظ نور الدین علی بن ابوبکر ہاشمی متوفی 807ھ
- کشف الاستار از حافظ نور الدین علی بن ابوبکر ہاشمی متوفی 807ھ
- البحر الزخار شرح مسند البزار از حافظ نور الدین علی بن ابوبکر ہاشمی متوفی 807ھ
- آداب الاکل شہاب الدین احمد بن عباد القہسی متوفی 808ھ
- غایۃ النہایۃ فی طبقات القراء از ابوالخیر محمد بن محمد بن محمد بن الجزری متوفی 833ھ
- اتحاف الخیرۃ المہرۃ احمد بن ابی بکر بن اسماعیل بوسیری متوفی 840ھ

- اتعاظ الخنفاء باخبار الائمة الفاطمین الخلفاء از احمد بن علی المقریزی متوفی 845ھ
- المطالب العالیة از احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی 852ھ
- لسان المیزان از احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی 852ھ
- التلخیص الحبیر از احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی 852ھ
- لسان المیزان از احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی 852ھ
- امالی المطلقہ از احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی 852ھ
- رفع الاصر عن قضاة المصر از احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی 852ھ
- الدرر الکامنہ از احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی 852ھ
- انباء الغمر بابناء العمر از احمد بن علی ابن حجر عسقلانی متوفی 852ھ
- عمدة القاری از ابو محمد بدرالدین محمود بن احمد عینی متوفی 855ھ
- المنتهل الصافی از ابو الحسن یوسف بن الایوب ابن تغری بردی متوفی 874ھ
- تاج التراجم فی طبقات الخنفیہ از قاسم بن قطلوبغا بن عبد اللہ متوفی 879ھ
- المبدع شرح المقنع از ابراہیم بن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن مقدسی متوفی 384ھ
- المبدع شرح المقنع از ابن المفلح المقدسی متوفی 884ھ
- نزہة المجالس از عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوری متوفی 394ھ
- القول البلیغ از محمد بن عبد الرحمن سخاوی متوفی 902ھ
- الضوء اللامع از محمد بن عبد الرحمن سخاوی متوفی 902ھ
- الحبا تک فی اخبار الملائک از جلال الدین سیوطی متوفی 911ھ
- جامع الاحادیث از جلال الدین سیوطی متوفی 911ھ
- الجامع الصغیر از جلال الدین سیوطی متوفی 911ھ
- الجامع الکبیر از جلال الدین سیوطی متوفی 911ھ

- جمع الجوامع از جلال الدین سیوطی متوفی 911ھ
- اللائئ المصنوعہ از جلال الدین سیوطی متوفی 911ھ
- تنزیہ الشریعہ از ابوالحسن علی بن محمد بن العراق الکنانی متوفی 923ھ
- اسنی المطالب از ابو یحییٰ زکریا الانصاری متوفی 926ھ
- سبل الھدی والرشاد از محمد بن یوسف صالحی شامی متوفی 942ھ
- الزوجر از مفتی مکہ شہاب الدین احمد ابن حجر مکی ہیتمی متوفی 947ھ
- لوح الانوار القدسیہ فی العھود والحمدیہ از عبدالوہاب بن احمد الشعرانی متوفی 973ھ
- کنز العمال از علی متقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری متوفی 985ھ
- مرقاۃ شرح مشکوٰۃ علامہ نور الدین علی بن سلطان قاری متوفی 1014ھ
- التیسیر شرح الجامع الصغیر از مناوی متوفی 1031ھ
- جواہر خمسہ از شیخ محمد غوث گوالیاری متوفی قبل 1030ھ
- فیض القدر از محمد عبدالرؤف مناوی متوفی 1031ھ
- النور السافر از عبدالقادر بن شیخ ابن عبداللہ العیدوس متوفی 1038ھ
- کشف الظنون از محمد عصمت بن ابراہیم الرومی المعروف حاجی خلیفہ متوفی 1160ھ
- اتحاف السادۃ المتقین از سید محمد بن محمد حسین زبیدی متوفی 1205ھ
- مدارج النبوة از شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی 1052ھ
- ما شئت بالنسہ از شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی 1052ھ
- سمط النجوم العوالی از عبدالملک بن حسین بن عبدالملک العصامی متوفی 1111ھ
- کشف الخفاء از اسماعیل بن محمد العجلونی متوفی 1162ھ
- دیوان الاسلام از محمد بن عبدالرحمن بن زین العابدین الفزری متوفی 167ھ
- مراتی الفلاح شرح نور الایضاح از حسن بن عمارہ الشربلانی متوفی 1069ھ

- کتاب اخضر المختصرات (محمد بن بدرالدین بن عبدالقادر) متوفی 1082ھ
- خلاصۃ الاثر از محمد امین بن فضل اللہ بن محبت اللہ محلی متوفی 1111ھ
- تعطیر الانام فی تفسیر الاحلام از عبدالغنی بن اسماعیل الشہیر نابلسی متوفی 1150ھ
- سلک الدرر فی اعیان القرن الثانی عشر از سید محمد خلیل افندی المرادی متوفی 1206ھ
- رد المختار از علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی 1252ھ
- اعانۃ الطالبین از سید بکری بن السید محمد شطا الدمیاطی متوفی 1310ھ
- ایضاح المکنون از اسماعیل پاشا بن محمد امین البغدادی متوفی 1339ھ
- هدایۃ العارفین از اسماعیل پاشا بن محمد امین البغدادی متوفی 1339ھ
- فتاویٰ رضویہ از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1340ھ
- معجم المطبوعات از یوسف الیان سرکیس متوفی 1351ھ
- تحفۃ الاحوذی از عبدالرحمن بن عبدالرحیم مباپوری متوفی 1353ھ
- فتاویٰ ثنائیہ از غیر مقلد ثناء اللہ امرتسری متوفی 1372ھ
- السلسلۃ النصحیہ از ناصر الدین البانی متوفی 1420ھ
- المقدمہ از ناصر الدین البانی متوفی 1420ھ
- صحیح الترغیب والترہیب از ناصر الدین البانی متوفی 1420ھ
- قلال الجریۃ تخریج السنۃ لابن ابی عاصم از ناصر الدین البانی متوفی 1420ھ
- موسوعۃ اقوال الدار قطنی ابو المعاطی النوری متوفی 1401ھ
- فتاویٰ اہل حدیث از عبداللہ روپڑی متوفی 1964ء
- حواشی الشروانی از عبدالحمید الشروانی و احمد بن قاسم عبادی متوفی بعد 1289ھ
- اعمال رضا از قاضی عبدالرحیم بستوی
- فضائل الاشرار تلخیص لطائف المعارف

الاعلام از خیر الدین الزیلعی
 فقہ العبادات الشافعی از محمد علی الزعمی
 معجم المؤلفین از عمر رضا کمالہ
 اختیار فی معرفۃ الرجال (طوسی)
 تاریخ ال زرارہ

مراۃ الرشاد

اصول مذہب الشیعۃ الامامیۃ الاثنی عشریۃ عرض و نقد از ناصر بن عبداللہ بن علی
 وسائل الشیعہ از محمد بن حسن بن علی الحر العالی الاخباری
 احادیث صحیح بها الشیعہ از عبدالرحمن محمد سعید دمشقیہ

**بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ
 كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ
 حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ
 صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ**

حکیم محمد اسحاق خان صاحب دکن تاجی عثمانی

کی مشہور و معروف مُستند اور خوبصورت کُتب

سُنّت اور نیک کتبی
میں اسی بریں
طِبِّ اِسْلَامِی

مُحَسِّنِ اِنْسَانِیَّتِ سَنَّا اِنَّهُ لَفِی سُنَّتِ اِی سُنَنِ مَطْمَرِہ کے طِبِّ رُومَانِی
فَوَائِدِ بِرِجَالِ کِتَابِ
طِبِّ نَبَوِی سَنَّا اِنَّهُ لَفِی سُنَّتِ اِی رُوشَنِی مِی خِلْجِہ اِمْرَاضِہ کے عِلَاجِہ کَا بِلَیَانِ

گناہوں کا علاج

اِسْلَامِ اَوْر طِبِّ اِی رُوشَنِی مِی بے شَمَارِہ اِیْمِ اَوْر بُرِی عَادَاتِہ
کے اِنسَدَا اَوْر رُوحَانِی اِمْرَاضِہ کے عِلَاجِہ بِرِی شَائِہ صَنِیْفِہ

شادی مبارک

اِسْلَامِ اَوْر طِبِّ اِی رُوشَنِی مِی خُوشِگُورِ اَزِہ و اِجْمَاعِہ رُوزِگِی کے لئے
رَہنَمَا نَا وِرِ نَا یَا بِ کِتَابِ
مُسْلِمَانِ خَاوند اَوْرِ نَبَوِیہ کے لئے خُوبصُورِتِہ کُتُبِہ

فیضانِ طِبِّ نَبَوِی

طِبِّ نَبَوِی سَنَّا اِنَّهُ لَفِی سُنَّتِ اِی رُوشَنِی مِی بے شَمَارِہ اِمْرَاضِہ حَیْمَانِی
کے عِلَاجِہ کَا بِلَیَانِ پِیچِنُوں اَوْر عِذَاؤوں سے عِلَاجِہ
حَضُورِ مِلَانِہ عِلْمِہ کے شَمَائِہ اِفْضَالِہ کَا اِیْمَانِ اَفْرُوزِہ تَذْکِرِہ

نوریہ رضویہ پبلیکیشنز

۱۱۔ گنج بخش روڈ - لاہور

مَطَالَعُ الْمَسْتَشَارَةِ دَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ

شرح، امام علامہ محمد مہدی بن احمد فاسی رحمۃ اللہ علیہ © ترجمہ، شیخ الحدیث علامہ تاج الدین صاحب مدظلہ العالی قادری

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جانے والے درودوں کا دنیا بھر میں مقبول ترین مجموعہ دلائل الخیرات ہے، لاکھوں اہل محبت اس کا ورد کرتے ہیں۔ حضرت علامہ محمد مہدی فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بے مثال شرح عربی میں لکھی، جس کا اردو ترجمہ پہلی بار ہدیۃ تارین نے کیا ہوا ہے

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات و خصائص کے موضوع پر امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ کے بعد لکھی جانے والی شہرہ آفاق کتاب

حَبْرُ اللَّهِ عَلَى الْعَالَمِينَ مُعْجَزَاتُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

تصنیف، امام علامہ یوسف بن اسماعیل نھانی رحمۃ اللہ علیہ © علامہ رفیع محمد اعجاز جتوہ

نورِ نیرِ ضوئِ نیکِ کیشین © لاگن بخش روڈ، لاہور ۷۳۱۳۸۸

پیشکش کیلئے خوشحال خزانہ دارانِ کرامت
کا دلکش مجلہ

البرہان خصائص صیغہ الحزن

مصحف

خطیبات حضرت مولانا حافظ تارکی

پروفیسر علامہ محمد شہیر احمد

جس میں حضرت زین العابدینؑ کی شانِ کرامت
مخزموں جوماتِ حبیب گریا
حضرت پیر مولا احمد رجبیؒ کی شانِ کرامت
کا عالیہ مبارک اور سراؤں سے لگ کر قلم پاک
کے خصائص و کمالات اور آپ کا حسن و جمال
سراپا مقدس آیات قرآنی، مستند و معتبر روایات
واحادیث سے اخذ کر کے درج کیا گیا ہے
اور آپ کے ایک ایک عضو مبارک کے اوصاف
جمیلہ کی تصویر کھینچ دی گئی ہے۔

فائنٹ دولت اسلامیہ کا پہلا ایڈیشن کا تاریخ پر
مولانا جمال الدین جوہار نے مولانا محمد شہیر احمد کی تالیف کی تصنیف

تاریخ الخلفاء محبوب العلماء

از: حضرت علامہ مولانا محمد بشیر صدیقی
انجمن خصوصیات
خلفائے راشدین سلطنتِ نبویہ و نبویہ اس کے احوال پر جامع تاریخ
مختلفہ و سلاطین کی سیر و کردار اور امتیازات کا مفصل اور جامع بیان
خلفاء و سلاطین کے عہد کی فتوحات اور اہم واقعات کا سال بہ سال تذکرہ

فتوح الغیب

تصنیف حضرت علامہ
غوث اعظم
کی شاہکار تصنیف

از: مولانا جمال الدین جوہار نے مولانا محمد شہیر احمد کی تالیف کی تصنیف

”منظر لائبریا“ کا اردو ترجمہ

لکھنؤ میں مولانا جمال الدین جوہار نے
طبعیت درمیت پر تیسرا غوث اعظمؒ کے ۸۷ مواعظ عالیہ کا
بے مثال مجموعہ

تفہیم و فہم اور زہد و تقویٰ پر مکتبہ کتب
سکون و تسکین پر مکتبہ کتب کو قرآن شریف کے ساتھ بیان
نماہ اور رہنمائی معانی قلبی باطن کے لئے
صدقہ اور صدقہ مسترزادہ کے بیان اور خورشیدِ انوار کی مخالفت
نصوح جہان



نوریہ رضویہ پبلی کیشنز

042-37213886, 37070883, 0300-4208188
 E-mail: noorieh@nooriar.com
 11 داتا مینجمنٹ روڈ، لاہور



ابوالحجاز مولا محسن احمد بیکرکاتی

کی مطبوعہ وغیر مطبوعہ کتب

لمعات مصطفیٰ ﷺ

اللہ ورسولہ علم

حضور ﷺ کے معجزے

رشتہ داران
مصطفیٰ ﷺ
کی قربانیاں

خاندان
نبوت

زندوں مردوں کا لین دین

خواتین کی
محافل

وہ جو مرنے کے بعد
زندہ ہوئے

نوریہ رضویہ پبلی کیشنز 11 داتا گنج بخش روڈ، لاہور

042-37313885, 37070663 E-mail: nooriarizvia@hotmail.com

